

اہل سنت اور اہل تشیع کے کلمہ پر مدلل اور تحقیقی بحث

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ

اسلامی کتبخانہ

افادات: حضرت علامہ علی شیر حیدری صاحب دامت برکاتہم

ترتیب: مولانا عبدالرحیم بھٹو صاحب

Www.Ahlehaq.Com

Www.Ahlehaq.Com/forum

جامعہ حیدریہ (لقمان خیر پور میرس سندھ)

Www.Ahlehaq.Com

Www.Ahlehaq.Com/forum

جملہ حقوق محفوظ ہیں

کتاب کا نام: اسلامی کلمہ

افادات: حضرت علامہ علی شیر حیدری صاحب دامت برکاتہم

ترتیب.....: مولانا عبدالرحیم بھٹو صاحب

مترجم.....: محمد اصغر مغل

سن طباعت: اکتوبر ۲۰۰۳

ملنے کے پتے:-

جامعہ حیدریہ لقمان خیر پور میرس سندھ

مکتبہ محمود بالمقابل جنوبی گیٹ دارالعلوم کراچی کورنگی کے اریا کراچی

فہرست

۱	پہلا باب
۲	اسلامی کلمہ
۳	﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ﴾.
۴	اہل تشیع کا کلمہ بمع حوالہ جات
۵	اسلامی کلمہ کا ثبوت (اہل سنت کی معتبر کتابوں سے)
۶	احادیث مبارکہ برائے کلمہ اہل سنت
۷	ایک گوہ کا شہادت دینا
۸	بنی سلیم کے ہزار افراد کا بیک وقت دائرہ اسلام میں داخل ہونا
۹	ایک جاہلانہ اعتراض اور اس کا دفعہ
۱۰	عربی عبارات
۱۱	(۱) الخصال کی عبارت
۱۲	(۲) تفسیر قمی کی عبارت
۱۳	(۳) تفسیر قمی کی عبارت
۱۴	(۴) حیات القلوب کی عبارت: تالیف محمد باقر مجلسی

۲۰

(۵) من لا يحضره الفقيه کی عبارت

۲۰

(۶) من لا يحضره الفقيه

۲۰

(۷) اصول کافی کی عبارت

۲۱

(۸) اصول کافی کی عبارت

۲۱

(۹) اصول کافی کی عبارت

۲۲

تنبیہ!

۲۳

دوسرا باب

۲۳

اہل تشیع کی کتابوں سے اہل سنت کے کلمہ کا ثبوت

۲۴

اسلام کے اركان میں سب سے پہلا رکن تو حیدر اور رسالت
کی شہادت دینا ہے

۲۵

دو شہادتوں کے اقرار سے کافر مسلمان ہو جاتا ہے

۲۵

شیعوں کے امام خمینی کا فتویٰ

۲۵

حضور ﷺ نے لا اله الا الله محمد رسول الله کی تبلیغ
فرمائی

۲۸

حوالہ جات

۲۹

لا اله الا الله محمد رسول الله کے اقرار سے جنت
لازم ہو جاتی ہے

۲۹

حضرت ابوذر غفاریؓ کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے

۳۰

وقت حضور اکرم ﷺ نے صرف اہل سنت کا کلمہ پڑھوایا۔

حضرت سیدہ فاطمہ کی والدہ ماجدہ ام المؤمنین حضرت

۲۳

حضرت سیدہ فاطمہ کی والدہ ماجدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ کو حضور ﷺ نے اہل سنت کا کلمہ پڑھوا�ا اے اہل تشیع!

۲۴

۲۵

حضرت علیؑ کی والدہ ماجدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد کو مسلمان کرتے وقت حضور اکرم ﷺ نے صرف اہلسنت کا کلمہ پڑھوا�ا
حضرت علیؑ (م ۲۰ھ) نے بھی اہل سنت کے کلمہ کی تبلیغ فرمائی

۲۶

حضرت سعد بن معاویہؓ نے اسلام ظاہر کرتے وقت صرف شہادتین کا اعلان فرمایا

۲۷

حضرت اسید بن حفیر نے اسلام لاتے وقت کلمہ ”لا اله الا الله محمد رسول الله“ کا اقرار کیا

۲۸

حوالہ جات

۲۹

اہل سنت کا کلمہ ایمان کی ڈھال ہے

۳۰

ظہورِ مہدی کے وقت کلمہ ”لا اله الا الله محمد رسول الله“ کا اعلان

۳۱

جعفر صادقؑ (م: ۱۳۸ھ) کا کلمہ سے متعلق اعلان

۳۲

موت کے وقت ملک الموت کا مومن کو اہلسنت کے کلمہ کی تلقین کرنا

۳۳

حضرت محمد ﷺ کے دونوں شانہ اقدس کے درمیان کلمہ لا اله الا الله محمد رسول الله کی مہربثت ہونا

۳۸

(اہل شیعہ کی معتبر کتاب سے ثبوت)

۳۹

حضرت آدم علیہ السلام کی انگوٹھی پر بھی اہل سنت کا کلمہ مکتوب
تحا

۴۰

سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ ﷺ کی انگلشتری مبارک
(انگوٹھی) کا نقش اہل سنت کا کلمہ تھاتقدير کے قلم والا کلمہ مبارک صرف یہی تو حیدور سالت والا
کلمہ تھا

۴۱

حضرت آدم نے عرش پر اہل سنت کا کلمہ لکھے دیکھا

۴۲

قیامت کے روز حضور ﷺ کے جھنڈے پر اہل سنت کا کلمہ لکھا
ہوگا

۴۳

امام حسینؑ کا خلیفہ ابن مروان کو مشورہ

۴۴

تیر را باب

۴۵

کلمہ کے متعلق شیعوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات

۴۶

اعتراض (۱)

۴۷

جواب

۴۸

اعتراض (۲)

۴۹

جواب

۵۰

اعتراض (۳)

۵۱

جواب

۵۲

اعتراض (۴)

۳۶
۳۶
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰

جواب
اعتراض (۵)
جواب
اعتراض (۶)
جواب
اعتراض (۷)
جواب

۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰

چو تھا باب
شیعوں کا اپنے کلمہ کے اثبات کے لئے شیعہ کتب سے
استدلال اور ان کا رد
شیعوں کے امام خمینی کا فتویٰ
پانچواں باب
وہ کتابیں جن کو شیعوں نے اہل سنت کی طرف منسوب کیا
ہے، جبکہ ان کے مصنف غالباً شیعہ ہیں
ابراہیم بن محمد حمویہ الجوینی (م ۷۲۲ھ) مصنف "فرائد
السمطین" اپنی تحریرات کے آئینے میں
فرائد اسمطین کا مصنف کتب رجال میں؟
فرائد اسمطین میں مذکور "جنتی دروازہ پر تحریر" روایت کی
تردید
مذکورہ روایت اہل شیعۃ کے ہاں بھی قابل جست اور معتبر

نهیں

كتاب مودة القربي

(٢) مروج الذهب:

(٥) ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة:

(٦) روضة الأحباب:

(٧) معارج النبوة:

(٨) تاريخ يعقوبي:

(٩) تذكرة خواص الأمة بذكر خصائص الأئمة:

٤٣ (١٠) مقتل أبي محفوظ:

(١١) كتاب الفتوح:

(١٢) روضة الصفا:

(١٣) روضة الشهداء:

(١٤) الأخبار الطوال:

(١٥) مقاتل الطالبين:

(١٦) الفصول المهمة في معرفة الأئمة:

٤٤ (١٧) مقتل الحسين:

(١٨) الملل والنحل:

(١٩) كفاية الطالب:

زیر اہتمام

حضرۃ العلامۃ علی شیر الحیدری

بسم اللہ الرحمن الرحيم

پہلا باب

اسلامی کلمہ

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ﴾.

برادران اسلامی:- اسلام اور ایمان کا دار و مدار کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ پر ہے، لہذا جو شخص دل میں اس کلمہ کی تصدیق رکھے اور زبان سے اس کلمہ کا اقرار کرے وہ مسلمان کہلاتے گا۔

اس اسلامی کلمہ کے دو حصے ہیں:

پہلا حصہ:- "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس پہلے حصے میں توحید اللہ کا اقرار ہے۔

دوسرਾ حصہ:- "مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ" ہے یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس حصے میں سرکارِ دو جہاں، فخر کون و مکال خاتم النبین سید الرسل حضرت محمد ﷺ کی رسالت و پیغمبری کا اقرار ہے، انہی دو باتوں کا اقرار کرنا اور دل میں یقین رکھنا، ایمان لانے کے لئے اولین شرط ہے۔ کوئی بھی شخص جو دونوں حصوں میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔

پھر جس شخص نے کلمہ کا اقرار کر لیا اس پر دیگر اسلامی احکام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ لازم ہو جاتے ہیں۔

سب سے پہلے اسلام کا بنیادی کلمہ یہی ہے، جس میں اللہ کی توحید اور حضور اکرم ﷺ کی رسالت کا ذکر ہے۔ اور اس کلمہ کے دونوں حصے جدا جدا طور پر قرآن کریم میں موجود ہیں، سورہ محمد میں ہے:

”فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“، سوجان لے کر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لا اق نہیں۔ اور اس سورت سے متصل ہی اگلی سورۃ فتح میں کلمہ کا وہ سراحتہ بھی موجود ہے۔ ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ حَمَاءُ بَيْنُهُمْ﴾۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر انتہائی سخت اور آپس میں مہربان ہیں۔

پہلی آیت میں لا الہ الا اللہ کے الفاظ بالکل ظاہر ہیں اور یہی کلمہ کا پہلا حصہ ہے، اور دوسرا آیت میں محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی صاف ظاہر ہیں، جو کلمہ کا دوسرا حصہ ہے۔

یہ بات ذہن نشیں رکھنی چاہئے کہ تمام مسلمان اہل سنت جو کلمہ پڑھتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ بلکہ اہل سنت کے ساتھ تمام اہل تشیع بھی ان دونوں حصوں پر متفق ہیں۔ باقی آگے جو زیادتی اہل تشیع کی طرف سے ہوتی ہے، اہل سنت اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور اہل سنت و اہل تشیع کے درمیان اختلاف صرف کلمہ کے اگلے حصوں میں ہے۔

اہل تشیع کا کلمہ: بعض حوالہ جات

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ و خلیفته بلا فصل۔

(۱) رسالت ”علی ولی اللہ“، ص: ۲۰۳، تالیف عبدالکریم مشتاق شیعہ۔

(۲) ”اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ“، ص: ۳۲۲، م: جمیع الاسلام سرکار علامہ محمد حسین قبلہ مجتہد العصر گودھا۔

(۳) ”نماز امامیہ“، ص: ۳، م: سید منظور حسین نقوی، نا۔ امامیہ کتب خانہ لاہور۔

(۴) ”نماز شیعہ خیر البریة“، ص: ۶، م: جمیع الاسلام ابوالقاسم الخوی، مجتہد اعظم نجف۔

(۵) ”احکام نماز“، ص: ۲۲، م: جمیع الاسلام علامہ حسین بن حنفی دارالمعارف الامامیہ۔

(۶) ”شیعہ نماز“، ص: ۱، سندھ شیعہ آگناز یشن شکار پور سندھ۔

- (۷) ”نماز اہل بیت“، ص: ۳، مفتی سید عنایت اللہ شاہ نقوی، ناشر محلہ شیعان لاہور۔
- (۸) ”پیغامِ نجات“، ص: ۱۳، تالیف: سید سعید احمد رضوی۔
- (۹) ”اما میہ دینیات درجہ اطفال“، ص: ۳، ادارہ چنیوالہ مکتب کراچی۔
- (۱۰) ”دینیات کی پہلی کتاب“، ص: ۱۰، سید فرمان علی، ناشر امامیہ کتب خانہ۔
- (۱۱) ”نماز امامیہ“، ص: ۳، علامہ حسین بخش جاڑا، سرگودھا، پنجاب۔
- (۱۲) ”شیعیت جو تعارف“، ص: ۳۵۹، تالیف: محمد بخش مکسی خیر پور سندھ۔
- (۱۳) ”رسالہ اثبات علی ولی اللہ فی کلمۃ طبیۃ“، ص: ۲۳، عبدالوهاب حیدری لاذکار۔
- (۱۴) ”ولایت علی بخش جلی“، ص: ۱۱۹، آغا عبدالحسین سرحدی، ناشر: مبلغ اعظم اکیڈمی فصل آباد۔
- (۱۵) ”دینیات کی دوسری کتاب“، ص: ۳۳، مرزا شک ہمدانی، ناشر امامیہ لاہور۔

شیعوں کے کلمہ کے کل پانچ حصے بنے اور وہ اسلامی کلمہ کے دو حصوں کے بعد مزید تین حصوں کا اضافہ کر کے شیعوں کا کلمہ ہے اور اضافہ شدہ تین حصے درج ذیل ہیں۔

(۱) علی ولی اللہ (۲) وصی رسول اللہ (۳) خلیفته بلا فصل۔

برادران اسلام! - کلمہ میں شیعوں کے اضافہ شدہ حصے قرآن کریم میں کہیں موجود نہیں ہیں اور نہ ہی سرورِ کائنات حضور اقدس ﷺ کی تمام حیاتِ مبارکہ میں شیعوں کا کلمہ پڑھا گیا اور نہ کسی کو مسلمان کرتے وقت شیعوں کا کلمہ پڑھایا گیا۔

خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ساری زندگی میں اس کلمہ کو تلاش کر لیں؟ مگر حدیث کی کسی معتبر کتاب میں کسی صحیح سند کے ساتھ کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا کسی بھی دوسرے امام نے یہ کلمہ کسی کو مسلمان کرتے وقت یا کسی اور وقت میں پڑھایا پڑھایا ہو۔

معلوم ہوا کہ یہ سراسرا پنی طرف سے گھڑا ہوا کلمہ ہے اور شیعہ حضرات اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد ساری دنیا نے اسلام سے کٹ جاتے ہیں۔

اسلامی کلمہ کا ثبوت

(اہل سنت کی معتبر کتابوں سے)

دینِ اسلام میں قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی نجت اور دلائل سرکارِ دو عالم کی حدیثِ مبارکہ ہے۔

اللہ کی کتاب، قرآن کریم میں کلمہ کے دونوں حصے ثابت ہو چکے ہیں، اب حضور اکرم ﷺ کی احادیث مبارکہ میں سے ان دونوں حصوں کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے۔ جاننا چاہئے کہ حضور اکرم ﷺ جب بھی کسی کو دائرہ اسلام میں داخل فرماتے سب سے پہلے اس سے صرف دو چیزوں کی گواہی لیتے (یعنی توحید اور رسالت) اور یہ چیزوں میں آجاتی ہیں ”لا اله الا الله محمد رسول الله“ اور ان کے علاوہ کلمہ میں بھی بھی کسی سے کسی کی امامت یا خلافت یا ولایت کا اقرار نہ کرواتے، مثال کے طور پر چند احادیث پیش کی جاتی ہیں۔

احادیث مبارکہ برائے کلمہ اہل سنت

(۱) حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنًا:

جو شخص (زبان اور دل سے) لا اله الا الله محمد رسول الله کی گواہی دے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرمادیتے ہیں۔ (مسلم و مشکوہ، کتاب الایمان)
امام مسلم بن الحجاج (متوفی ۲۶۱ھ) نے مسلم شریف میں ایک باب اس عنوان سے قائم فرمایا ہے:

”باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله“ (مسلم کتاب الایمان)

یعنی کافر لوگوں سے جنگ جاری رکھنے کا حکم..... جب تک کہ وہ لا اله الا الله محمد رسول الله نہ کہہ لیں۔ اس باب کی مناسبت سے امام صاحب نے مذکورہ

حدیث بھی ذکر فرمائی ہے۔

(۲) حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اُمُرُّت
اُنْ أَقْاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهُدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.
(بخاری، مسلم مشکوہ کتاب الایمان)

مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے قال جاری رکھوں حتیٰ کہ وہ
”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ“ کی گواہی دیں۔

(۳) قال رسولُ اللَّهِ لِمَعَاذَ بْنِ جَبَلَ حِينَ بَعَثَ إِلَيْ الْيَمَنِ،
إِنَّكَ سَتَأْتَى قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جَئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهُدُوا
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَكَ بِذَلِكَ
فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلِيلٍ.

(بخاری کتاب المغازی)

جب حضور اکرم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا
(اے معاڑ!) تو اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس جا رہا ہے۔ لہذا جب تو ان
کے پاس پہنچتے تو ان کو دعوت دے کر وہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ“ کی گواہی
دیں۔ اگر وہ اس بات کی گواہی دیکر تیری بات مان لیں تو ان کو بتا! کہ اللہ نے ان پر ہر
دن ورات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔

(۴) حضرت جریرہ فرماتی ہیں ”بَأَيَّاعَثُ رَسُولَ اللَّهِ شَهادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ“ کہ میں نے لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ
اللَّهِ کی گواہی کے ساتھ حضور اکرم ﷺ کی بیعت کی۔ (بخاری کتاب البیوع)

(۵) جب حضرت عبد اللہ بن سلام نے حضور اکرم ﷺ کے سامنے توحید
ورسالت کا اقرار کر کے اسلام قبول کر لیا تو عرض کیا: یا رسول اللہ! یہودی ایک شراری
قوم ہے۔ میرے اسلام کے ان پر ظاہر ہونے سے پہلے آپ ان سے میرے متعلق
کچھ بات چیت کریں۔ لہذا جب یہودی آپ ﷺ کی خدمت میں آئے تو آپ نے
دریافت فرمایا: کہ اے اہل یہود! عبد اللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں؟ یہود کہنے لگے:

وہ ہم میں سب سے بہترین انسان ہیں۔ پھر حضور اکرم ﷺ نے دریافت فرمایا: اور اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر؟ یہودی کہنے لگے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پناہ میں رکھے۔ حضور اکرم ﷺ نے پھر دریافت فرمایا: کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر؟ انہوں نے پھر کہا کہ اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے۔ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ۔ اتنے میں حضرت عبد اللہ بن طرف آنکھ اور فرمایا: میں ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ“ کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ سن کر یہودی کہنے لگے! یہ ہم میں سب سے بدکار آدمی ہے اور پھر طرح طرح کے عیب بیان کرنے لگے۔

عبد اللہ بن سلامؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ دیکھا؟ مجھے اسی بات کا خدشہ لا حق تھا۔

(بخاری کتاب المناقب)

(۶) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے کئی صحابہ کرام نے بنی حنیفہ کے ایک شخص شمامہ بن اثال کو گرفتار کر کے مسجدِ نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ نبی اکرم ﷺ اس کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا: اے شمامہ! تیرا کیا ارادہ ہے؟ جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ! میرا نیک ارادہ ہے۔ آپ مجھے قتل فرمانا چاہیں تو قتل فرمادیں اور اگر جان بخشی کا احسان فرمائیں تو یہ آپ کا ایک احسان تسلیم کرنے والے پر احسان ہوگا۔ دوسرے دن حضور اکرم ﷺ نے حکم فرمایا کہ شمامہ کو رہا کر دو۔ رہائی کے بعد شمامہ مسجدِ نبوی کے قریب واقع ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں غسل کیا پھر مسجد میں داخل ہوئے اور شہادت دی:

أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ۔

میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ کی گواہی دیتا ہوں۔ (بخاری)

(۷) بنو سلیم قبلی کے ایک ہزار افراد نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ“ پڑھ کر دامنِ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ درج بالا حصہ ایک طویل روایت کا حصہ ہے جس کا دلچسپ خلاصہ درج ذیل ہے۔

ایک گوہ کا شہادت دینا

حضرت عمر بن خطابؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتھے کہ اچانک بنی سلیم قبیلے کا ایک اعرابی ایک گوہ اٹھائے ہوئے آیا اور حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا؛ کہ اگر یہ گوہ آپ کی نبوت کی گواہی دیدے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ بنی اکرمؓ نے گوہ سے مخاطب ہو کر دریافت فرمایا:

اے گوہ میں کون ہوں؟ گوہ فصح و شیریں عربی زبان میں گویا ہوئی؟

أَنْتَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَقَكَ وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَبَكَ.

فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ.

آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی، وہ کامیاب ہوا اور جس نے جھٹلا یا وہ نامراد ہوا۔
(یہ سنتہ ہی) اعرابی برجستہ بول اٹھا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔

بنی سلیم کے ہزار افراد کا بیک وقت دائرہ اسلام میں داخل ہونا

جب اعرابی رسول اللہ ﷺ کی خدمت سے نکلا تواریتے میں ایک ہزار مسلح افراد سے ملاقات ہوئی جو سب تیر و تکوار اور نیزوں کے ساتھ تھیں۔ اعرابی نے ان سے پوچھا: کس ارادے سے نکلے ہو؟ وہ بولے: ہم اس شخص کے قتل کے ارادے سے نکلے ہیں، جو اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے۔ اعرابی نے کہا میں تو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ“ کی گواہی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا: اچھا! تو تو اتنے میں بد دین ہو گیا؟ لیکن پھر اعرابی نے مذکورہ گوہ والا قصہ بیان کیا تو ”فَقَالُوا بِأَجْمِعِهِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ“ سب بیک زبان بول اٹھے:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ.“

فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَلَقَّاهُمْ فِي رِدَاءٍ فَنَزَّلُوا عَنْ رُكُبِهِمْ يَقْبَلُونَ مَا وَلُوا مِنْهُ وَهُمْ يَقُولُونَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ، مُرْنَانِ بِأَمْرِكَ يَا

رسول اللہ! فَقَالَ تَدْخُلُوا تَحْتَ رَأْيَةِ خَالِدٍ بْنِ وَلِيدٍ. قَالَ فَلَيْسَ احَدٌ مِّنَ الْعَرَبِ آمِنًا مِّنْهُمْ أَلْفُ جَمِيعاً إِلَّا بْنُ سُلَيْمَانٍ.

پھر یہ ماجرا حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں پہنچا تو آپ چادر زیپ تن فرما کر ان سے ملاقات کے ارادے سے نکلے وہ (آپ کو دیکھ کر) سواریوں سے نیچے اتر گئے اور جو حضور کے قریب پہنچتا وہ آپ کو چوتھا اور ساتھ ساتھ کہتا ”لا اله الا الله محمد رسول الله“. پھر انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کوئی حکم دیجئے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ خالد بن ولید کے جہنم تسلیم کے داخل ہو جاؤ۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں بنی سلیم کے علاوہ کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے جس کے بیک وقت ایک ہزار افراد مسلمان ہوئے ہوں۔

(المعجم الصغير للطبراني ج: ۲، ص: ۲۶، طبع بيروت)

مذکورہ تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ کلمہ صرف دو اجزاء پر مشتمل ہے اور اہل تشیع کے اضافہ کردہ تین حصے ان کے من گھڑت ہیں اور جو مذکورہ حدیثیں پیش کی گئیں صرف نمونہ کے طور پر ہیں، ورنہ احادیث اور آثار کا بے انتہا ذخیرہ اس سے متعلق موجود ہے، جس سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل کلمہ صرف دو اجزاء پر مشتمل ہے۔

ایک جاہلانہ اعتراض اور اس کا دفعیہ

ذہن نشیں رکھنا چاہئے کہ کلمہ توحید و رسالت میں عربی عبارت کبھی کبھی ان یا ان کے ساتھ بھی آتی ہے اور بھی شہادة کا فقط بھی آتا ہے، اور یہ صرف عربی گرامر کی وجہ سے آتا ہے ورنہ کلمہ کے حصہ صرف لا اله الا الله محمد رسول الله ہیں۔

شیعہ اکثر ان پڑھ اور جاہل لوگوں کے سامنے یہ اعتراض اور شبہ کرتے ہیں کہ اگر کلمہ صرف ”لا اله الا الله محمد رسول الله“ ہے تو یہ دوسرے الفاظ ان اور ان غیرہ کہاں سے آئے؟

تو یاد رکھیں یہ جاہلانہ اور بالکل لغو اعتراض ہے۔ عربی سے معمولی واقفیت رکھنے والا شخص بھی اس کے حوالے پن کو خوب سمجھ سکتا ہے اور ہر شیعہ کی عالم اس اعتراض کو

بے جا اور غلط قرار دیتا ہے۔ لہذا ہم اس بات کے پیش نظر خود شیعہ علماء کی کچھ عبارتیں پیش کرتے ہیں، جن میں لفظ ”آن یا آن“ استعمال ہوا ہے، مگر انہوں نے بھی اس کا ترجمہ صرف ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ“ کیا ہے۔

عربی عبارات

(۱) الخصال کی عبارت

قال رسول الله ﷺ اربع من کن فيه فی نور الله الاعظم من کانت عصمة امرہ شہادۃ آن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ .
• (خصال شیخ صدقہ قمی ص ۲۱۰، ایران)

حاشیہ ترجمہ مقبول شیعہ، ص: ۲۵

ترجمہ:- تفسیر عیاشی اور الخصال میں اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث مردی ہے کہ جس شخص میں یہ چار خصلتیں ہوں گی اس کو خدا تعالیٰ کے سب سے بڑے نور میں جگہ ملے گی ایک تو وہ جس کے ایمان کی حفاظت یہ کلمہ ہو لا
الله الله محمد رسول الله.

(۲) تفسیر قمی کی عبارت

آیت: ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِلَّا خَسَانٌ“ الخ قال: العدل شہادۃ
ان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (تفسیر قمی سورہ حلق آیت ۹۰)

حاشیہ ترجمہ مقبول شیعہ، ص: ۵۵۱

ترجمہ:- تفسیر قمی اور عیاشی میں جو حدیثیں اس آیت کی تفسیر میں منقول ہیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ العدل سے مراد کلمہ شہادت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رسول اللہ . ہے۔

(۳) تفسیر قمی کی عبارت

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَشَهِّدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ .
(تفسیر قمی ج ۲ ص ۲۲۸ نجف)

حاشیہ ترجمہ مقبول شیعہ، ص: ۹۰۳

جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے بس اتنا کہہ دو "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ". (حاشیہ مقبول ۹۰۲ عکس ص: ۸۰)

(۴) حیات القلوب کی عبارت: تالیف محمد باقر مجلسی

علی بن ابراہیم گفتہ کہ عدل گواہی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ است۔

(حیات القلوب ج ۳ ص ۱۸۳ ایران)

حیات القلوب اردو ج: ۳، ص: ۳۶۱، مترجم سید بشارت حسین شیعہ
علی بن ابراہیم (مصنف تفسیر قمی) نے کہا ہے کہ عدل سے مراد "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ" کی گواہی دینا ہے۔ (ناشر امامیہ کتب خانہ لاہور)

(۵) من لا يحضره الفقيه کی عبارت

عن عبد الله عليه السلام فی قول الله عز وجل (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) قال الخير ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله.
(من لا يحضره الفقيه ج ۳ ص ۷۸ ایران).

تفسیر المتقین اردو ص: ۲۵۹، تالیف سید امداد حسین کاظمی شہیدی

امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خیر سے مراد ہے کہ وہ لا اله الا الله مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ کی شہادت دے۔ (تفسیر المتقین ص ۲۵۹ سورہ نور).

(۶) من لا يحضره الفقيه کی اسی عربی عبارت کا ترجمہ حاشیہ ترجمہ مقبول ص ۷۰۳ میں یوں کیا گیا ہے۔

الفقيہ میں امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ خیر سے مراد ہے کہ پہلے تو کلمہ شہادت "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ" کا قائل ہو۔

(۷) اصول کافی کی عبارت

فتکلموا بالاسلام وشهدوا ان لا اله الله وان محمدا رسول الله.

(اصول کافی ج: ۲، ص: ۳۲۳ کتاب الایمان والکفر، ایران)

(کتاب الشافی ترجمہ اصول کافی ج: ۲، ص: ۳۲۳ کتاب الایمان والکفر)

انہوں نے اسلام کے بارے میں کلام کیا اور ”لا اله الا الله“ محدث رسول اللہ“ کی گواہی دی۔ (مترجم: شیعوں کا ادیب عظیم سید ظفر حسن نقوی قبلہ) (۸) اصول کافی کی عبارت

ثم بعث الله محمدًا ﷺ وهو بمكة عشر سنين فلم يَمْتُ بِمكّة في تلك العشر سنين أحدٌ يشهدُ أن لا اله الا الله وانَّ محمدًا رسول الله الا أَدْخِلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِإِقْرَارِهِ.

(اصول کافی ج: ۲، ص: ۲۹ کتاب الایمان والکفر مطبوعہ ایران)

کتاب الشافی ترجمہ اصول کافی

اس کے بعد اللہ نے حضرت محمد ﷺ کو بھیجا وہ مکہ میں دس سال اس طرح رہے کہ لا اله الا الله محمد رسول کی گواہی دے کر منے والا کوئی نہ تھا، (مگر) خدا نے جنت لازم کی اقرار شہادتیں پر۔

(الشافی ترجمہ اصول کافی ج ۲ ص ۳۲ حیات القلوب)

(۹) اصول کافی کی عبارت

وَشَهَدُوا إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

(اصول کافی ج: ۲، ص: ۳۱ کتاب الایمان والکفر ایران)

حیات القلوب ج: ۲، ص: ۳۲۲، طبع ایران، تالیف باقر مجلسی (المتوفی سنہ ۱۴۱۱ھ) لا اله الا الله و محمد رسول الله گفتند۔

سید بشارت حسین شیعہ نے حیات القلوب کی عبارت کا یہ ترجمہ کیا ہے اور لا اله الا الله محمد رسول الله کے قائل ہوئے (حیات القلوب ج ۲ ص ۷۱۷)۔

(۱۰) من لا يکضره الفقيه کی عبارت

قال شهادة ان لا اله الا الله و محددا رسول الله

(من يحضره الفقيه ج ص ۱۳۱)

رسالہ ایشات علی ولی اللہ ص ۲۵ تالیف عبدالوہاب حیدری لاڑکانہ۔

آپ نے فرمایا لا اله الا الله محمد رسول الله کی گواہی ہے۔

(۱۱) تفسیر صافی کی عبارت

”قَالَتِ الْأَغْرَابُ آمَنَا“ قِيلَ نَزَلَتْ فِي نَفْرٍ مِنْ بَنِي اسْدٍ قَدِمُوا
الْمَدِينَةَ فِي سَنَةِ جَذْبَةٍ (وَأَظْهَرُوا الشَّهَادَتَيْنِ).

(تفسیر صافی ج ۲، ص ۵۹۵ سورۃ حجرات)۔

حاشیہ ترجمہ مقبول ص: ۱۰۳۰

﴿قَالَتِ الْأَغْرَابُ آمَنَا﴾ تفسیر صافی میں ہے کہ یہ آیت بنی اسد کے ایک
گروہ کے بارے میں نازل ہوئی جو قحط سالی کے زمانے میں مدینہ منورہ آئئے تھے،
اور اظہار کلمہ ”لا اله الا الله محمد رسول الله“ کرتے تھے۔

تنبیہ!

قارئین کرام! آپ کو معلوم ہوا کہ شیعہ مجتہد علماء کے ہاں بھی ان عربی عبارتوں
میں سے صرف کلمہ کے دو حصے ”لا اله الا الله اور محمد رسول الله“ مراد ہیں۔
اہلسنت مناظر حضرات کو مندرجہ بالا عبارات ذہن نشیں رکھنا ضروری ہیں۔



Www.Ahlehaq.Com

Www.Ahlehaq.Com/forum

دوسرے باب اہل تشیع کی کتابوں سے اہل سنت کے کلمہ کا ثبوت

اسلام اور ایمان کی بنیاد کلمہ کی دو شہادتیں ہیں

(۱) شیعوں کا رئیس الحمد شیخ صدوق قمی (متوفی سنہ ۳۸۱ھ) لکھتا ہے:

اصل الایمان اَنَّمَا هُوَ الشَّهَادَتَانِ فَجَعَلَ شَهَادَتَيْنِ شَهَادَتَيْنِ كَمَا جَعَلَهُ فِي سَائِرِ الْحَقُوقِ شَاهَدَيْنِ فَإِذَا أَقْرَأَ الْعَبْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَاقْرَأَ لِلرَّسُولِ ﷺ بِالرِّسَالَةِ فَقَدْ أَقْرَأَ بِجُمْلَةِ الْإِيمَانِ، لَأَنَّ اَصْلَ الْإِيمَانِ اَنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ۔ (من لا يحضره الفقيه ج اص ۱۹۶ باب الاذان والاقامة طبع ایران)

ایمان کی اصل صرف دو شہادتیں (دو گواہی) ہیں اسی وجہ سے اذان میں بھی دو شہادتیں رکھی گئیں ہیں، جس طرح کہ تمام حقوق میں بھی دو گواہ ضروری ہیں، پس جب بندہ اللہ عز وجل کی واحد نیت اور رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے تو گویا وہ ایمان کی تمام باتوں کو مان لیتا ہے۔ کیونکہ ایمان کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے اقرار پر ہے۔

(۲) شیعوں کا شہید ثالث، قاضی نور اللہ شوستری (م: ۱۰۱۹ھ) لکھتا ہے:

اول آنکہ اسلام مبنی است بر اصل شہادتین، شہادت و حدایۃ و شہادت رسالت..... ہر یک از بکلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوازدہ حرف است۔

(مجلس المؤمنین ج اص ۱۲۰ ایران)

سب سے پہلے اسلام کا دار و مدار دو شہادتوں پر ہے، (۱) توحید کی شہادت (۲)

رسالت کی شہادت۔ دونوں میں سے ہر ایک شہادت میں بارہ بارہ کلمات ہیں۔
(۳) شیعوں کا علامہ شیخ علی بن عیسیٰ اربیلی (م ۱۹۳ھ) لکھتا ہے:
ان الا یمان والاسلام مبني على کلمتي لا اله الا الله محمد رسول الله .
ایمان اور اسلام کا دار و مدار دو باتوں یعنی لا اله الا الله اور محمد رسول الله
الله پر ہے۔
(کشف الغمہ ج ۱ ص ۵۲ فی ذکر الاملة، مطبوعہ ایران)

برادرانِ اسلام:- گذشتہ سطروں سے آپ کو معلوم ہوا کہ شیعوں کے بڑے
بزرگ شیخ صدوق قمی نے بھی ایمان کی بنیاد صرف دو شہادتوں پر رکھی ہے، ایک ”لا اله
الا الله“ اور دوسری ”محمد رسول الله“ یعنی توحید اور رسالت کا اقرار۔ قاضی
نور اللہ شوستری اور علی بن عیسیٰ اربیلی نے بھی انہی دو شہادتوں کو ایمان اور اسلام کی بنیاد
اور اصل مدار قرار دیا ہے اور مسلمان مؤمنوں کا کلمہ یہی ہے۔



اسلام کے اركان میں سب سے پہلا رکن توحید اور رسالت کی شہادت دینا ہے

حضرت امام محمد باقرؑ (م: ۱۱۳ھ) کا فتویٰ

(۱) شیعوں کے بزرگ شیخ صدوق قمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقرؑ
فرماتے ہیں: من شهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقرب ما
جاء من عند الله و اقام الصلوة و اتى الزكوة و صام شهر رمضان و حج
البیت فهو مسلم۔
(خلاص شیخ صدوق ج ۲ ص ۷۶ مطبوعہ ایران)

جس نے لا اله الا الله اور محمد رسول الله کی گواہی دی اور جو کچھ اللہ کی
طرف سے آیا سب کا اقرار کیا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور رمضان کے مہینے کے
روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کیا تو وہ مسلمان ہے۔

دو شہادتوں کے اقرار سے کافر مسلمان ہو جاتا ہے
شیعوں کے امام خمینی کا فتویٰ

اگر کافر شہادتین بکوید ”اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدًا
رسول الله“ مسلمان می شود۔ (توضیح المسائل ص ۲۲)

اگر کافر شہادتین کہہ دے یعنی میں لا اله الا الله اور محمد رسول الله کی
شہادت دیتا ہوں تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔

برادران اسلام:- ملاحظہ فرمائیں کہ شیعوں کے مسلمہ امام خمینی نے بھی مسلمان
ہونے کے لئے صرف دو شہادتوں کی ضرورت قرار دی ہے اور یہ دونوں شہادتیں
مسلمانوں کے کلمہ میں موجود ہیں اور آگے کا اضافہ شدہ حصہ یعنی علی ولی اللہ سے
بلا فصل تک امام خمینی نے بھی ذکر نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ شیعوں کے امام خمینی کے
زندیک بھی کلمہ کے اضافہ شدہ حصے نہ کلمہ کا حصہ ہیں اور نہ مسلمان ہونے کے لئے
ضروری ہیں، بلکہ ان کے زندیک بھی کلمہ صرف دو شہادتوں یعنی لا اله الا الله اور
محمد رسول الله پر مشتمل ہے۔

حضور ﷺ نے

لا اله الا الله محمد رسول الله کی تبلیغ فرمائی

رحمۃ للعالمین، سید المرسلین، حضرت محمد ﷺ نے بھی صرف کلمہ لا اله الا الله
محمد رسول الله کی تبلیغ فرمائی۔ شیعوں کے مجتہد، مولوی مقبول احمد دہلوی، قرآن
مجید کے ترجمہ مقبول کے حاشیہ پر تفسیرتی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ مَا سَمِعْنَا
بِهَذَا فِي الْمِلَةِ الْأَخِرَةِ۔ تفسیرتی میں ہے کہ یہ آیت کے میں اس وقت نازل ہوئی
جب حضور اکرم ﷺ دین کی دعوت علی الاعلان فرمانا شروع ہوئے تو تمام قریش کے
ابو طالب کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اے ابو طالب: تیرے بھتچے نے ہمارے

بزرگوں کو بیوقوف بنادیا ہے اور وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور اس نے ہمارے جوانوں کو بگاڑ دیا ہے، یعنی اپنے مذہب میں داخل کر لیا ہے اور اس نے ہماری جمیعت و اتحاد کو پارہ کر دیا ہے۔ سن لو! اگر اس کو غربت و افلاس نے اس کام پر مجبور کیا ہے تو ہم اس کو اس قدر مال جمع کر کے دے دیتے ہیں، جس سے وہ ہمارے درمیان سب سے بڑا مالدار بن جائے گا اور مزید یہ کہ ہم اس کو اپنا بادشاہ بنانے پر بھی سرتسلیم خم کرتے ہیں۔

جناب ابوطالب نے یہ بات سن کر اپنے بھتیجے کو پہنچائی تو حضور اکرم ﷺ نے یہ جواب مرحمت فرمایا: اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر آفتاب اور بائیں ہاتھ پر باہتاب لا کر رکھ دیں تو یہ بھی مجھے منظور نہیں ہے۔ میں تو صرف اس کلمہ کو چاہتا ہوں، جس کلمہ کی بدولت یہ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم بھی ان کے سامنے سرتسلیم خم کر دیں گے اور آخرت میں بھی جنت کی باشائی حاصل کریں گے۔

ابوطالب نے یہ جواب قریش تک پہنچا دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اچھا وہ ایسا کلمہ کون سا ہے؟ ہم تو دس کلمے بھی مانے کو تیار ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بس اتنا کہہ دو "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" ..

اس قصے کے حوالے مندرجہ ذیل شیعہ کی معتبر کتب میں دیکھیں:

- (۱) حاشیہ ترجمہ مقبول ص: ۹۰۳ سورۃ ص
- (۲) تفسیر قمی ج ۲ ص ۲۲۸ سورۃ ص طبع نجف، عراق
- (۳) تفسیر صافی ج ۲، ص ۳۳۹، سورۃ ص سہ مطبوعہ ایران
- (۴) تفسیر نمونہ ج ۱۹ ص ۲۱۲ سورۃ ص سہ مطبوعہ ایران
- (۵) المیز ان فی تفسیر القرآن ج ۷ ص ۱۸۶ سورۃ ص - قم ایران
- (۶) البرہان فی تفسیر القرآن ج ۳ ص ۳۲ سورۃ ص - قم ایران
- (۷) تفسیر نور الثقلین ج ۲ ص ۳۳۲ حدیث نبیرے
- (۸) بحار الانوار ج ۱۸۲ ص ۱۸۲ تاریخ تینا، طبع ایران
- (۹) الارشاد شیخ مفید ج ۱ ص ۳۲ - مطبوعہ ایران

اس روایت میں لفظ کلمہ اور اس کے الفاظ لا اله الا الله محمد رسول الله حضور اکرم ﷺ کی زبان اقدس سے ثابت ہوئے۔

شیعہ کی مذکورہ تمام کتب سے ثابت ہوا کہ کلمہ صرف دو اجزاء پر مشتمل ہے اور ان کتب کے علاوہ چونکہ ترجمہ مقبول پر گیارہ بڑے شیعہ حضرات کی تقاریب ثبت ہیں لہذا اس کے ضمن میں ان کی تائید و حمایت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ لہذا ان گیارہ حضرات کے اسماء بھی ذیل میں درج کئے جائے ہیں۔

- (۱) آیۃ اللہ مفتی سید احمد علی صاحب قبلہ، مجتہد اعظم ہندوپاک۔
- (۲) سید کلب حسین نقوی صاحب قبلہ مجتہد العصر۔
- (۳) خطیب اعظم سید محمد صاحب دہلوی۔
- (۴) سرکار سید نجم الحسن صاحب مجتہد العصر۔
- (۵) سرکار بحر العلوم سید یوسف حسین بخاری، قبلہ مجتہد العصر۔
- (۶) سرکار حضرت سید ظہور حسین صاحب مجتہد العصر۔
- (۷) سرکار سید سبیط بنی بخاری صاحب قبلہ، مجتہد العصر۔
- (۸) سرکار سید محمد ہادی رضوی صاحب قبلہ، مجتہد العصر۔
- (۹) سرکار سید آقا حسن صاحب قبلہ۔
- (۱۰) سرکار سید آقا حسن صاحب قبلہ۔

(۱۱) سرکار شمس العلماء سید ناصر حسین صاحب قبلہ۔

☆ شیعوں کے رئیس الحمد شیخ صدوق قمی (م: ۳۸۱ھ) لکھتے ہیں کہ حضرت اُن سے روایت ہے۔

قال اللہ عزوجل یا محمد اذهب الی الناس فقل لهم قولوا: لا اله
الله محمد رسول الله۔

کہ اللہ عزوجل نے فرمایا اے محمد آپ لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو کہیں لا
الا الله محمد رسول الله کہہ لو۔

(خصال شیخ صدوق ج: ۲، ص: ۲۵۲ طبع ایران)

☆ شیعوں کا بزرگ ملا باقر مجلسی (م: ۱۴۱۱ھ) لکھتا ہے:

حضرت امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا پس وحی نمود کہ ای محمد برو بسوی مردم وامر کن ایشان را کہ بگویند لا اله الا الله محمد رسول الله۔

(حیات القلوب ج: ۲، فصل اول طبع ایران)

اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے محمد: آپ لوگوں کی طرف جائیں اور ان کو حکم کریں کہ لا اله الا الله محمد رسول الله کا اقرار کریں۔ مذکورہ روایت سے معلوم ہوا کہ اہل سنت کا کلمہ اہل تشیع کی کتب سے "وحی" کے ساتھ ثابت ہوا اور اس میں حضور اکرم ﷺ کو اسی کلمہ کی تبلیغ کا حکم ہے اور آپ نے ہمیشہ اس کلمہ کی تبلیغ فرمائی۔

☆ شیعوں کے بڑے مفسر علی بن ابراہیم قمی (م: ۳۰۵ھ) روایت کرتے ہیں فخر ج رسول اللہ ﷺ فقام علی الحجر فقال: يا معاشر قريش يامعشر العرب ادعوكم الى شهادة ان لا اله الا الله وانى رسول الله۔ پھر حضور اکرم ﷺ باہر تشریف لے گئے اور پتھر پر کھڑے ہو کر فرمایا: اے قریش کی جماعت! اے عرب کی جماعت! میں تم کو لا اله الا الله محمد رسول الله کی دعوت دیتا ہوں۔

حوالہ جات

(۱) شیعوں کی معتبر کتاب تفسیر قمی ج اص ۳۷۹ سورہ حجر

(۲) شیعوں کی معتبر کتاب تفسیر صافی ج اص ۱۵۹ مطبوعہ ایران

(۳) شیعوں کی معتبر کتاب بحار الانوار ج اص ۱۸۰ طبع ایران

(نوٹ) مذکورہ روایت میں انی رسول اللہ ہے اور انی سے مراد ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں اور محمد رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شیعہ اعتراض کرے کہ یہاں محمد رسول اللہ نہیں ہے تو یہ اس کا جا بل پن اور انتہائی یقوقنی ہو گی اور اس اعتراض کا جواب پہلے گذر چکا ہے۔

لا اله الا الله محمد رسول الله
کے اقرار سے جنت لازم ہو جاتی ہے

حضرت حسینؑ کے پوتے حضرت محمد باقرؑ کا فتوی ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

☆ شیعوں کا محدث محمد بن یعقوب کلینی (سنہ ۳۲۹ھ) حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت کرتا ہے۔

ثم بعث الله محمدا ﷺ و هو بمكة عشر سنين فلم يمت بمكة في تلك العشر سنين أحد يشهد ان الا الله الا الله وان محمدا رسول الله الا ادخله الله الجنة باقراره . (اصول کافی ج ۲ ص ۲۹)

پھر اللہ عز و جل نے محمد ﷺ کو رسول بنا کر بھیجا اور آپؑ مکہ میں دس سال رہے اور مکہ میں ان دس سال کے اندر جو بھی لا اله الا الله محمد رسول الله کی گواہی دینے والا وفات ہوا اللہ اس کو اقرار کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔

برادران اسلام:- مذکورہ روایات سے معلوم ہوا کہ خود شیعہ کی اہم اہم کتابوں میں توحید اور رسالت کے اقرار کے علاوہ کسی اور جزء کا اقرار موجود نہیں ہے۔ نہ کہیں علی ولی الله ہے نہ وصی رسول الله ہے اور نہ، ہی خلیفته بلا فصل ہے۔

حضرت ابوذر غفاریؓ کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے وقت حضور اکرم ﷺ نے صرف اہل سنت کا کلمہ پڑھوایا

☆ یہ ایک طویل روایت کا حصہ ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت ابوذر غفاریؓ نے فرمایا کہ میں ایمان لانے کے لئے حضرت علیؓ کی خدمت میں آیا حضرت علیؓ نے مجھے ارشاد فرمایا: تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال فشهادت. یعنی آپ لا اله الا الله محمد رسول الله کی شہادت دیں (حضرت ابوذر فرماتے ہیں) میں نے شہادت دیدی۔

پھر حضرت علیؓ نے مجھے حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے وہاں پہنچ کر سلام عرض کیا اور آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ حضور اکرم ﷺ نے دریافت فرملوایس کام کی غرض سے تشریف لانا ہوا؟ میں نے عرض کیا: میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں اور جو حکم آپ فرمائیں گے اس کی بھی میں اطاعت کروں گا حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

تشهد ان لا اله الا الله وان محمدًا رسول الله فقلت: اشهد ان لا
الله الا الله وان محمدًا رسول الله. کیا تم لا اله الا الله محمد رسول کی
گواہی دیتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں! میں لا اله الا الله محمد رسول الله کی
گواہی دیتا ہوں۔

(۱) روضہ کافی ج: ۲، ص: ۳۹۸ حدیث اسلام ابوذر، ایران

(۲) بحار الانوار ج: ۲۲، ص: ۳۲۳ مطبوعہ ایران

(۳) حیات القلوب ج: ۲، ص: ۷۵ در بیان احوالات ابوذر، ایران۔

برادران اسلام: - انصاف اور عقل کی نظر سے دیکھیں کہ حضرت ابوذر رغفاریؓ ایمان قبول کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو حضرت محمد ﷺ اور حضرت علیؓ دونوں حضرات نے اسلام میں داخل کرنے کے لئے اہل سنت کا دو حصوں والا کلمہ ہی پڑھوایا اور آگے کسی کی خلافت یا امامت یا ولایت کا اقرار نہ لیا۔

شیعہ علماء کبھی بھی قیامت تک زائد حصہ یعنی علی و ولی اللہ سے بلا فصل تک کسی بھی حدیث کی معتبر کتاب سے ثابت نہیں کر سکتے کہ حضور ﷺ یا حضرت علیؓ نے پوری زندگی میں کبھی کسی کو یہ پانچ حصوں والا کلمہ پڑھوایا ہو۔
مسلمان یا کافر؟

اس کے باوجود کلمہ کے متعلق شیعہ حضرات کے حیران کن اور جھوٹے عقائد سے متعلق چند اقوال ملاحظہ ہوں:

(۱) سنیوں کا کلمہ لا اله الا الله محمد رسول الله پڑھنا ایمان کی دلیل
نہیں ہے۔

(۲) مومن اور منافق میں تیز "علیٰ ولی اللہ" سے ہوتی ہے۔

(شیخ حنفیہ بحق ہے ص ۳۱)

(۳) اقرار ولایت کے بغیر (یعنی علیٰ ولی اللہ کہہ بغیر) نبوت کا اقرار (بھی) بے فائدہ ہے۔
(رسالہ اثبات علیٰ ولی اللہ ص ۲۲)

(۴) کلمہ بھی علیٰ ولی اللہ پڑھنے کے بعد ہی مکمل ہو گا (ص ۲۲)

(۵) لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علیٰ ولی اللہ پڑھنا عین ایمان ہے اور یہ (آخری کلمہ) جزء ایمان ہے۔ (رسالہ اثبات علیٰ ولی اللہ ص ۲۲)

نمبر ۳ کو ایک نظر دیکھیں (اور جرات و جسارت کا اندازہ لگائیں) کہ اس کے اقرار کے بغیر انبیاء کی نبوت بھی نہیں رہتی تو پھر ہمارا تمہارا ایمان کیسے رہے گا! لہذا شیعہ حضرات کے مطابق جو شخص تینوں اجزاء کا کلمہ میں اقرار کرے گا اسی کا ایمان قابل قبول ہو گا۔ (وسیلہ انبیاء ج: ۲، ص: ۷۹ ا تالیف: طالب حسین کرپالوی تاشریف یہ داراللتیخ لاہور)

برادرانِ اسلام: - اندازہ لگائیں کہ اس وقت شیعہ لکھتے ہیں کہ جو شخص کلمہ میں علیٰ ولی اللہ نہ پڑھے گا وہ بے ایمان اور منافق ہے۔ اس طرح انہوں نے تمام دنیا کے اسلام کو کافر، منافق اور بے ایمان قرار دیا ہے، کیونکہ یہ کلمہ میں اس تیری جزء کو نہیں پڑھتے۔ ما وشا کا تو کیا کہنا! حضور ﷺ سمیت تمام انبیاء اور صحابہ کرامؐ کی گستاخی بھی صاف ظاہر ہے (معاذ اللہ)۔ ہم شیعہ حضرات سے پوچھتے ہیں کہ اگر صرف کلمہ توحید و رسالت، ایمان کی دلیل اور اسکے لئے کافی نہیں ہے تو پھر حضور علیہ السلام اور حضرت علیؓ نے حضرت ابوذرؓ کو فقط اتنا کلمہ کیوں پڑھوایا؟ جس میں تمہارے کلمہ کے تیرے، چوتھے اور پانچویں حصے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے!۔ اے اہل تشیع تم ہی انصاف کی نظر سے بتاؤ کہ کیا ابوذر رغفاری جن کو حضرت علیؓ اور حضور ﷺ نے مسلمان کیا وہ مسلمان ہوئے یا نہیں؟

توجہ: - اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ صرف کلمہ نہیں پڑھاتے، بلکہ در پرده اس کلمہ پر اعتراض کرتے ہیں، جو حضور ﷺ اور حضرت علیؓ نے ساری زندگی پڑھا اور پڑھایا۔ شیعہ اس کلمہ کو نامکمل اور بے فائدہ سمجھتے ہیں۔

محترم قارئین کرام! اللہ عزوجل کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے خود فیصلہ فرمائیں، کہ کیا اسلام کی بنیاد "کلمہ" کو غلط سمجھنے والے شیعہ اب بھی مسلمان ہیں یا کافر؟۔

حضرت سیدہ فاطمہ کی والدہ ماجدہ ام المؤمنین

حضرت خدیجہ کو حضور ﷺ نے اہل سنت کا کلمہ پڑھوا یا

☆ جب حضور اکرم ﷺ حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے حضرت خدیجہ کا گھر روشن ہو گیا حضرت خدیجہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کس چیز کا نور ہے؟ فرمایا: نور پیغمبری ہے۔ کہو: لا اله الا الله محمد رسول الله فرمود کہ ایں نور پیغمبری است، بگو! لا اله الا الله محمد رسول الله (حوالہ جات شیعہ کی معتبر کتب)

(۱) حیات القلوب ج: ۲، ص: ۲۶۰ مطبوعہ ایران

(۲) شہی الامالی ج: ۱، ص: ۲۷۲ تالیف شیخ عباس قمی ایران

(۳) مناقب الابی طالب ج: ۱، ص: ۳۶۰ فی مبعث النبی، ایران

(۴) بحوار الانوار ج: ۱۸، ص: ۱۹۷ مطبوعہ قم ایران

اے اہل تشیع:

آپ بتائیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ام المؤمنین کو جو کلمہ پڑھوا کر مسلمان کیا وہ مکمل ہے یا ادھورا؟

وہ کلمہ ایمان کی دلیل ہے یا نہیں؟

ام المؤمنین اس کلمہ سے مومنہ ہوئیں یا نہیں؟

جبکہ اس کلمہ میں حضور ﷺ نے علی ولی اللہ الخ کا اقرار نہیں کروایا۔

حضرت علیؐ کی والدہ ماجدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد کو مسلمان کرتے وقت حضور اکرمؐ نے صرف اہلسنت کا کلمہ پڑھوا�ا
 ☆ قال ﷺ لا تصلح الا ان تشهدی معی ان لا اله الا الله وان
 محمدا رسول الله ، فشهادت الشہادتین .

(مناقب آلب ابی طالب ج ۲ ص ۲۷۱ ایران، جلاء العیون ج ۱ ص ۲۹۹ ایران)

حضورؐ نے (فاطمہ بنت اسدؓ) کو فرمایا:
 (آپ کی پیش کردہ کھجوریں) میرے لئے درست نہیں ہیں، جب تک آپ
 میرے سامنے لا اله الا الله محمد رسول الله کی گواہی نہ دیں۔ پھر (حضرت
 فاطمہ) نے گواہی دی۔

اے اہل تشیع: بتاؤ کہ کیا حضرت علیؐ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد شہادتین
 (یعنی توحید اور رسالت) کا اقرار کر کے مسلمان اور مومنہ ہوئیں یا نہیں؟ جبکہ اللہ کے
 رسولؐ نے ان کو مسلمان کرتے وقت کلمہ میں علی ولی اللہ سے بلا فصل تک کا
 اقرار نہیں کروایا، اقرار تو کیا! کسی کے حاشیہ و خیال میں بھی اس من گھڑت کلمہ کا وجود
 نہ تھا۔

حضرت علیؐ (م ۳۰ھ) نے
 بھی اہل سنت کے کلمہ کی تبلیغ فرمائی

☆ فخر الشیعہ، شیخ مفید (م ۳۱۳ھ) ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت علیؐ
 نے خندق نہ میں عمر و بن عبد و دکا فر کو فرمایا:
 انی ادعوک الی شہادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله.
 (اب عمر و) میں تجھے لا اله الا الله محمد رسول الله کی شہادت کی دعوت
 دیتا ہوں۔

(الارشاد شیخ مفید ج: ۱، ص: ۹۰، مطبوعہ ایران۔

(۲) تفسیر قمی ج: ۲، ص: ۱۸۲، مطبوعہ نجف عراق۔

☆ شیعوں کے مفسر قرآن علی بن ابراہیم قمی (ام ۷۰۵) حضرت امام جعفر صادقؑ سے ایک روایت سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔

کہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت علیؑ کو کئی صحابہ کے ہمراہ ذات السلاسل کی لڑائی میں بھیجا۔ جب صحابہ کی جماعت ایک ”یا بس“ نامی وادی میں پچھی تو وہاں سے ایک سو کافر اسلامی سے نیس نمودار ہوئے۔ حضرت علیؑ ان کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں سمیت ان کے سامنے تشریف لائے۔ اس وقت کافروں نے مسلمانوں کو دیکھ کر پوچھا تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تمہارا کیا ارادہ ہے؟

حضرت علیؑ بن ابی طالب نے فرمایا: جان لو! میں رسول اللہ ﷺ کا داما دھوں، ان کا قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں اور ”ادعوكم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله“. میں تم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت کی طرف بلاتا ہوں۔

(۱) شیعوں کی معترکتاب تفسیر قمی ج: ۲، ص: ۲۷۳، طبع ایران۔

(۲) شیعوں کی معترکتاب تفسیر صافی ج: ۲، ص: ۸۲۵، طبع ایران۔

اہل اسلام! غور کریں کہ خود حضرت علیؑ بھی کلمہ کی دعوت دیتے وقت کلمہ میں اپنا ذکر نہیں فرمائے ہیں بلکہ خلافت کا اور نہ ہی ولایت و امامت کا۔ پھر ایسا کلمہ جوان کے نام کے ساتھ شیعہ حضرات نے گھڑ لیا ہے وہ ان کی اپنی ایجاد ہے، خود حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں اور نہ وہ اس کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں۔

حضرت سعد بن معاویہؓ نے اسلام

ظاہر کرتے وقت صرف شہادتیں کا اعلان فرمایا

☆ یہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور ﷺ نے ان کو سید الانصار کا لقب عطا فرمایا تھا اور یہ حضور کے ساتھ بدرا اور احد کی لڑائی میں بھی شریک کا رہتے۔

ان کے قبول اسلام کا واقعہ اہل شیعہ کی معتبر کتاب "حیات القلوب فارسی" ج ۲، ص: ۳۱۶ میں موجود ہے۔ ملاحظہ کیجئے:

حضرت مصعبؓ نے سورۃ ﴿ حَمْ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ ﴾ کی تلاوت شروع کی جب تلاوت سے فارغ ہوئے تو حضرت سعدؓ کی پیشانی پر ایمان کا نور چمکنا شروع ہو گیا۔ لہذا حضرت سعدؓ نے کسی کو اپنے گھر بھیجا کہ میرے کپڑے لے آؤ۔ پھر آپ نے غسل کیا اور کپڑے تبدیل کئے اور دو شہادتوں والا کلمہ زبان پر جاری فرمالیا۔
(حیات القلوب ج ۲ ص ۲۹۸ اردو)

حضرت اسید بن حفیر نے اسلام لاتے وقت کلمہ
”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ“ کا اقرار کیا

☆ یہ بدتری صحابی ہیں ۲۰ ھ میں وفات پائی۔ حضرت اسید بن حفیرؓ نے (مصعب بن عیمرؓ) سے پوچھا کہ جو اسلام لانا چاہے وہ سب سے پہلے کیا کرے؟ حضرت مصعبؓ نے فرمایا: پہلے وہ غسل کرے، پھر پاک صاف لباس زیب تن کرے، پھر دو شہادتوں والا کلمہ زبان پر جاری کرے۔ یہ سن کر حضرت اسید بن حفیرؓ کپڑوں سمیت کنویں میں داخل ہوئے اور غسل کیا، پھر باہر تشریف لائے، کپڑوں کو نچوڑا اور مصعبؓ سے عرض کیا! (جلدی کیجئے اور) مجھے دونوں شہادتیں سکھا دیجئے اور پھر کلمہ لا الہ الا اللہ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ کا اقرار کر لیا۔

حوالہ جات:

- (۱) حیات القلوب ج ۲ ص ۲۹۸ اردو، مترجم سید بشارت حسین شیعہ۔
- (۲) حیات القلوب فارسی ج ۲ ص ۳۱۶ طبع ایران

اہل سنت کا کلمہ ایمان کی ڈھال ہے

☆ تفسیر عیاشی اور الخصال میں جناب رسول خدا ﷺ سے یہ حدیث مروی ہے کہ جس شخص میں یہ چار خصلتیں ہوں گی اس کو خدا کے سب سے بڑے نور میں جگہ ملے گی

سب سے پہلی (خصلت) یہ کہ اس کے ایمان کی ڈھال یہ کلمہ ہو " لا اله الا الله محمد رسول الله "۔

۱) حاشیہ ترجمہ مقبول ص ۲۵، سورۃ البقرہ۔

۲) کتاب الامانی ص ۶۷ مجلس التاسع، قم ایران

۳) خصال شیخ صدوق قمی ص ۲۱۰، مطبوعہ ایران

۴) تفسیر صافی ج اص ۱۵۳: تحت آیت ان الله الخ طبع ایران

۵) من لا يحضره الفقيه ج اص ۱۱۱: افی التعریة والجزع عند المقصبة

۶) الانوار النعمانیہ ج ۳ ص ۲۲۹ مطبوعہ ایران

۷) مسکن القوادیں ۱۰۱، تالیف شہید شانی شیخ زین الدین العاملی۔

برادران! توجہ کریں کہ حضور نے اہل سنت کے کلمہ کے بارے میں فرمایا یہ ایمان کی ڈھال ہے، یعنی اس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور اس کلمہ میں شیعہ کے اضافہ کردہ حصہ علی ولی اللہ سے بلا فصل تک کچھ بھی نہیں ہے۔

اور اس روایت میں لفظ کلمہ اور اس کے معدود الفاظ لا اله الا الله محمد رسول الله اظہر میں اشمس ہیں۔

ظہورِ مہدی کے وقت کلمہ

"لا اله الا الله محمد رسول الله" کا اعلان

☆ آیت: وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، تفسیر عیاشی میں امام محمد باقرؑ سے منقول ہے کہ یہ آیت آل محمد (شیعوں کے امام مہدی) کے متعلق نازل ہوئی ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا تو روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا جس میں لا اله الا الله محمد رسول الله کی شہادت کا اعلان نہ ہو۔

(حاشیہ مقبول ص ۱۱۹ سورہ ال عمران)

اس سے معلوم ہوا کہ اہل شیعہ کے بارہویں امام مہدی کے ظہور کے وقت بھی

ساری دنیا میں اہلسنت کے کلمہ کاذب کا بے گا اور اسی کلمہ میں کہیں بھی علی ولی اللہ سے بلا فصل تک کسی شہادت کا ذکر نہیں ہے۔ خود امام مہدی بھی بیانگ بلند صرف شہادتین کا ہی اقرار کریں گے۔
(اصول کافی)

حضرت جعفر صادق (م: ۱۳۸ھ) کا کلمہ سے متعلق اعلان

☆ حضرت جعفر صادق سے منقول ہے کہ جب تم میں سے کسی کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان ابلیس مرنے والے پر ایک شیطان مقرر کرتا ہے جو اس کو کفر کا حکم کرتا ہے اور اس کے دین میں شبہات کے رخنے والتا ہے اور اس کی یہ کوشش روح نکلنے تک جاری رہتی ہے اس لئے تم کو چاہئے کہ جس کی موت قریب آجائے:
فلقن وہم شهادة ان لا اله الا الله وان محمدًا رسول الله حتى
يموتوا، تو تم اس کو لا اله الا الله محمد رسول کی شہادت کی تلقین کرتے رہو جب تک کہ اس کی وفات نہ ہو جائے۔

(۱) من لا يحضره الفقيه ج ۱ ص ۹۷ فی غسل المیت، ایران

(۲) الفروع من الكافي ج ۳ ص ۱۲۳ کتاب البجناز، مطبوعہ ایران

موت کے وقت ملک الموت

کامومن کو اہلسنت کے کلمہ کی تلقین کرنا

☆ حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ نماز پر قائم رہے گا، مرتب وقت موت کا فرشتہ اس کو شیطان کے حربوں سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ ویلقنه شہادة ان لا اله الا الله وان محمدًا رسول الله. اور اس کو لا اله الا الله محمد رسول الله کی شہادت کی تلقین کرے گا۔

(من لا يحضره الفقيه ج ۱ ص ۸۲ فی غسل المیت، ایران)۔

☆ حضرت امام باقر (م ۱۱۲) سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ سے موت کے فرشتے نے عرض کیا: انی لملقن المؤمن عندموته شهادة ان الا الله الا الله وان محمدا رسول الله۔ (یا رسول اللہ) میں مومن کو اسی کی موت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول کی شہادت کی تلقین کرتا ہوں۔

(الفروع من الكافي ج ۳ ص ۱۳۷ اکتاب الجنائز ایران)

قارئین کرام:- ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میری موت اسلام اور ایمان پر آئے اور میرے آخری سائنس کی لڑی کلمہ پڑوئے اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ حضرت جعفر صادقؑ بھی موت کے وقت اسی کلمہ کی تلقین کا حکم فرماتے تھے اور موت کا فرشتہ بھی مومن کو اسی کلمہ کی تلقین کرتا ہے اور اس میں کہیں علی ولی اللہ سے بلا فصل تک کچھ موجود نہیں ہے بلکہ یہ شیعۃ کی اپنی ایجاد ہے۔

حضرت محمد ﷺ کے دونوں شانہ اقدس کے درمیان کلمہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مہر ثبت ہونا
(اہل شیعۃ کی معتبر کتاب سے ثبوت)

☆ شیعوں کا محدث باقر مجلسی (م ۱۴۱) لکھتا ہے:
وقتیکہ ہنوز روح آدم بدنش تعلق نہ گرفته بود، پس اسرافیل مہری بیرون آور دکھنے کے درد و سطر نوشته بود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پس آن مہر را درمیان دو کتف آنحضرت ﷺ گذاشت تانقش گرفت۔

(حیات القلوب ج ۲ ص ۷۲ باب چہارم دریاب احوالات شریف آنحضرت)

ترجمہ:- ابھی حضرت آدم کے بدن میں روح نہ ڈالی گئی تھی کہ اسرافیل ایک مہر اٹھا کر لائے جس میں دو سطروں کے اندر لکھا ہوا تھا ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پھر اس مہر کو حضور ﷺ کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا، تو اس کے الفاظ

حضرور ﷺ کے جسم اطہر پر نقش ہو گئے۔

☆ شیعوں کے بزرگ شیخ صدوق تی (م ۳۸۱ھ) لکھتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے فرمایا حضور ﷺ کے دونوں شانوں کے درمیان نبوت کی مہر تھی اور اس میں دو سطراں تھیں، پہلی سطر لا اله الا الله اور دوسری سطر محمد رسول الله تھی۔

(خلاص شیخ صدوق ج ۲ ص ۳۸۲، مطبوعہ ایران)

☆ مہر پیغمبری کہ درمیان دو کتف اوست دو سطر نوشته است سطر اول لا اله الا الله سطر دوم محمد رسول الله۔

(حیات القلوب ج ۲ ص ۱۳۶، ایران عکس ص ۸۷)

مہر نبوت حضور ﷺ کے دونوں شانوں کے درمیان تھی اور وہ دو سطراں لکھی ہوئی تھیں ایک سطر لا اله الا الله تھی اور دوسری سطر محمد رسول الله تھی۔

معزز قارئین کرام:- آپ کو شیعہ کی معتبر کتب سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے حضور اکرم ﷺ کے جسم اطہر پر نبوت کی مہر میں مسلمانوں کا کلمہ لا اله الا الله محمد رسول الله لکھوا یا تھا، اب جو اس کلمہ کو کامل نہ سمجھے تو وہ حضور ﷺ کی مہر نبوت والے کلمہ کو ناقص سمجھتا ہے اور اس پر اعتراض کرتا ہے اور پھر اس کاٹھکانا کہاں ہو سکتا ہے؟ ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی انگوٹھی پر بھی اہل سنت کا کلمہ مکتوب تھا

☆ شیعوں کا بزرگ باقر مجلسی (م ۱۱۱۱ھ) لکھتا ہے:

بسند معتبر از امام رضا علیہ السلام منقول است، نقش نگین انگشت حضرت آدم "لا اله الا الله محمد رسول الله" بود کہ با خود از بهشت آورده۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آدم کی انگوٹھی پر لا اله الا الله محمد رسول الله نقش تھا، اور وہ انگوٹھی آپ بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔

(حیات القلوب ج ۱ ص ۳۴۰، ایران خلقت آدم و حوا، طبع ایران)

☆ شیعوں کا رئیس الحمد شیخ شیخ صدوق قمی (حسم ۳۸۱ھ) اور محمد بن یعقوب کلینی لکھتے ہیں:

حسین بن خالد سے روایت ہے کہ میں نے امام موسی کاظمؑ سے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقش کیا تھا؟ فرمایا: لا اله الا الله محمد رسول الله.

(۱) خصال: شیخ صدوق ج ۱ ص ۲۹۷، مطبوعہ ایران

(۲) الفروع من الکافی ج ۲ ص ۲۷۲ باب نقش الخواتیم، ایران

سید المرسلین خاتم النبین محمد مصطفیٰ ﷺ کی انگشتی مبارک (انگوٹھی) کا نقش اہل سنت کا کلمہ تھا

از حضرت جعفر صادق علیہ السلام منقول است که آن حضرت ﷺ دو انگشتی داشت بریکی نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله و برد یگری نوشته بود صدق الله.

یعنی: حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضور ﷺ کی دو انگوٹھیاں تھیں ایک پر "لا اله الا الله" لکھا ہوا تھا دوسری پر "محمد رسول الله" لکھا ہوا تھا۔

(۱) حیات القلوب ج ۱ ص ۱۰۹ اور بیان خواتیم، طبع ایران)

(۲) خصال شیخ صدوق ج ۱ ص ۹۸ مطبوعہ ایران)

☆ شیعوں کے مفسر قرآن، علی بن ابراہیم (م ۳۰۷ھ) روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالبؑ نے فرمایا:

بلغ عمرہ ثلثاً وستین سنة ولم يخلف بعده الا خاتماً مكتوب عليه "لا اله الا الله محمد رسول الله". یعنی جب حضور ﷺ تریس سال کی عمر کو پہنچے (تو آپ کی وفات ہو گئی اور آپ) اپنے پیچھے صرف ایک انگوٹھی چھوڑ کر گئے جس پر لکھا تھا لا اله الا الله محمد رسول الله.

(شیعوں کی معترکتاب تفسیر قمی ج ۲ ص ۲۷۲ سورۃ شوری)

شیعیت ہی کی کتب سے معلوم اور ثابت ہوا کہ پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور آخری پیغمبر حضور ﷺ دونوں حضرات کی انکشافت مبارک پر اہل سنت کا دو حصوں والا کلمہ لکھا ہوا تھا۔ کیا جب اول و آخر پیغمبروں کی مہرِ نبوت اور انکشافتیوں پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا تو پھر بھی اس کلمہ کے مکمل ہونے اور اس کی صداقت و حقانیت میں کچھ شک کیا جاسکتا ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔

لقدریر کے قلم والا کلمہ مبارک

صرف یہی تو حیدور سالت والا کلمہ تھا

☆ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم فرمایا کہ میری تو حید لکھ! قلم ہزار سال بے ہوش رہا پھر خدا تعالیٰ کے کلام سننے پر جب ہوش آیا تو قلم نے عرض کیا: پروردگارا چہ چیز بنو یسم فرمودہ بنویس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے پروردگار میں کیا لکھوں؟ فرمایا کہ لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

(۱) شیعوں کی معتبر کتاب جلاء العیون ج ۱۹ ازندگانی رسول خدا، ایران

(۲) شیعوں کی معتبر کتاب حیات القلوب ج ۲۲ ص ۷ طبع ایران

(۳) شیعوں کی معتبر کتاب تذكرة الانہ ص ۹، طبع ایران

اے اہل اسلام! انتہائی غور و فکر کی ضرورت ہے کہ لقدر خدا پر ہی سب چیزوں کا مدار ہے اور لقدریر میں یہی اہل سنت کا کلمہ لکھا ہوا ہے تو کیا یہ لقدر خداوندی (نعوذ باللہ، معاذ اللہ) نامکمل اور ادھوری ہے؟ اور شیعوں کا ایجاد کردہ من گھڑت کلمہ مکمل ہے؟ اگر اس کو نامکمل کلمہ سمجھا جائے جیسے شیعہ کہتے ہیں تو پھر خدا کی لقدری جھوٹی اور ادھوری ہو جاتی ہے، جو بالکل محال اور غلط ہے لہذا شیعوں کا کلمہ ہی غلط ہے۔

حضرت آدم نے عرش پر اہل سنت کا کلمہ لکھے دیکھا

شیعوں کے بزرگ ملا باقر مجلسی اور حسین شاکری بخاری لکھتے ہیں:

چومرا آفریدی نظر نمودم بسوئے عرش و دیدم در آن نوشتہ

بود لا اله الا الله محمد رسول الله۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار! جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے عرش پر لکھا دیکھا تھا لہا الا اللہ محمد رسول الله۔

(۱) حیات القلوب ج ۲ ص ۱۳۱ اور بیان خصائص آنحضرت، ایران
(علی فی الکتاب والسنۃ ص ۳۶۶ مطبوعہ ایران)

قیامت کے روز حضور ﷺ کے
جہنڈے پر اہل سنت کا کلمہ لکھا ہوگا

☆ شیعوں کے محقق شیخ علی بن عیسیٰ اربیلی (م ۶۹۳ھ) روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت علی سے فرمایا:
(۱۔ علی) تجھ کو قیامت کے دن میرا مخصوص جہنڈا دیا جائے گا جس پر تین سطریں لکھی ہوں گی۔

اول: بسم الله الرحمن الرحيم۔

دوم: الحمد لله رب العلمين۔

سوم: لا اله الا الله محمد رسول الله۔

(کشف الغمة فی معرفة الائمه ج اص ۲۹۵ مطبوعہ تبریز، ایران)

☆ شیعہ کتب کی ایک اور روایت ہے؛ قیامت کے دن حضرت علیؑ کے ہاتھ میں لواء الحمد (تعريف کا جہنڈا) ہو گا وہ (جہنڈا) اعلان کرے گا ”لا اله الا الله محمد رسول الله“ اور جب حضرت علیؑ کی فرشتے کے پاس سے گذریں گے تو وہ فرشتے کہے گا یہ کون سے نبی مرسل ہیں؟ اور جب آپؐ کسی پیغمبر کے پاس سے گذریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ کوئی مقرب فرشتے ہے! پھر ایک منادی عرش سے اعلان کرے گا یہ کوئی مقرب فرشتے ہیں اور نہ کوئی نبی مرسل، بلکہ یہ علی بن ابی طالبؓ ہیں۔

(۱) کتاب الامالی ج اص ۳۵۵ مطبوعہ قم، ایران تالیف شیخ طوسی

(۲) کتاب الامالی ص ۲۷۲ مجلس الثاني والثلاثون، طبع ایران، شیخ مفید یہاں سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن لواء الحمد یعنی محمد کے علم پر اہل سنت کا کلمہ مبارک درج ہوگا اور حضرت علیؑ خود بھی اسی کو پڑھتے ہوں گے۔ نیز اس میں علی ولی اللہ الخ کا کوئی ذکر نہیں۔

امام حسینؑ کا خلیفہ ابن مروان کو مشورہ

حضرت امام حسینؑ کے پوتے حضرت محمد باقرؑ (۱۱۲م) نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو سکتے پر اہل سنت والے کلمہ کے لکھوانے کا مشورہ عنایت فرمایا۔ ☆ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حضرت محمد باقرؑ کو دعوت دے کر ملک شام بلوایا، اور سکے جاری کرنے کے متعلق مشورہ طلب کیا تو محمد باقرؑ نے مشورہ دیا کہ سکے کے ایک طرف تاریخ اور اس کے بننے کی جگہ درج کی جائے، اور دوسری طرف لا اله الا الله رسول الله درج کیا جائے۔

(آ میں سعادت ج ۲ ص ۷۶ امطبوعہ ایران از خمینی)

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت محمد باقرؑ نے یہ مشورہ اس لئے عنایت فرمایا تاکہ یہ کلمہ ہر جگہ راجح ہو جائے اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر ایک کے پاس تحریری طور پر موجود ہو اور ہر ایک اس کو اچھی طرح از بریاد کر لے۔ یوں حضرت محمد باقرؑ نے اس کلمہ کی تبلیغ و ترویج کے پیش نظریہ و سعی پروگرام پیش فرمایا، سبحان اللہ۔ مسلمانان! و یکھئے شیعہ حضرات خلیفہ عبد الملک بن مروان پر لعنتوں کی بھرمار کرتے ہیں، جبکہ حضرت محمد باقرؑ عبد الملکؑ کے مشیر اور صلاح کار بنے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد باقرؑ سی المسلک تھے۔

تیسرا باب کلمہ کے متعلق شیعوں کے اعترافات اور ان کے جوابات

اعتراف (۱)

اہل تشیع کہتے ہیں: حضور ﷺ کے بعد ولایت، امامت اور خلافت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لہذا ہم کلمہ میں علی و لی اللہ کے الفاظ بڑھا کر یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم اور ولایت علی کا دور شروع ہو گیا ہے۔

جواب

اگر کلمہ میں ولایت یا امامت کا ذکر ضروری ہے تو ہر امام کے زمانے میں جدا جدا امام کا اسم گرامی کلمہ میں ہونا ضروری ہے اور ہر دور میں شیعوں کا کلمہ جدا جدا ہونا چاہئے تھا مگر ایسا نہیں ہے۔

مثال: اگر شیعہ حضرات کی بات تسلیم کی جائے تو پھر علی المرتضیؑ کے زمانہ خلافت میں کلمہ اس طرح ہونا چاہئے تھا ”لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله وصی رسول الله و خلیفۃ رسول الله“ مگر ایسا نہیں ہے۔ پھر حضرت حسینؑ کے دور میں اس طرح ہونا چاہئے۔ ”لا اله الا الله محمد رسول الله حسین ولی الله“ وغیرہ وغیرہ۔ اور اس وقت کے شیعہ حضرات کو چاہئے کہ وہ کلمہ میں امام مهدی کا نام لیں کیونکہ ان کے مذکورہ عقیدے کے مطابق اب ان کی امامت کا دور ہے تو اس طرح کلمہ میں تمام اماموں کا نام آنا چاہئے صرف علی ولی الله کیوں؟ کیا دوسرے امام شیعوں کے عقیدے میں منصوص من اللہ نہیں ہیں؟ یا شیعہ دوسرے اماموں کی ولایت کے منکر ہیں؟ جو کلمہ میں ان کے نام لیوانہیں ہیں۔

اعتراض (۲)

شیعہ کہتے ہیں ہمیں حضرت علیؑ سے محبت ہے، اس وجہ سے ان کا نام کلمہ میں ملا تے ہیں اور سنی مذہب والوں کو مولا علیؑ سے دشمنی ہے اس وجہ سے وہ ان کا نام کلمہ میں برداشت نہیں کرتے۔

جواب

حضرت علیؑ کی محبت ہم سب سنی مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن کلمہ کی بات اپنی جگہ ہے، کلمہ وہی پڑھا جائے گا جو حضور ﷺ نے پڑھایا۔ اگر شیعوں کے مطابق محبوب کا نام کلمہ میں لینا ضروری ہے تو پھر دوسرے امام کیا محبوب نہیں ہیں؟ ان کی اولاد محبوب نہیں ہے؟ ان کے نام بھی کلمہ میں ذکر کریں اور اچھی طرح محبت ظاہر کریں۔

اعتراض (۳)

لا اله الا الله محمد رسول الله تو منافق بھی پڑھتے تھے اس لئے یہ کلمہ ایمان کی دلیل نہیں ہے اور مومن اور منافق کی تمیز کے لئے کلمہ میں مزید تین حصوں کا اضافہ کیا گیا یعنی علی ولی الله الخ اور اس کلمہ سے نفاق کا مکمل طور پر خاتمه ہو جاتا ہے۔

جواب

(۱) اگر یہ کلمہ ایمان کی دلیل نہیں ہے اور اس کلمہ سے مومن اور منافق کی تمیز بھی نہیں ہوتی تو پھر رسول خدا ﷺ اور حضرت علیؑ نے یہ کلمہ کیوں پڑھایا؟ اور حضرت جعفر صادقؑ نے کیوں فرمایا کہ مرتبے وقت اس کلمہ کی تلقین کرو؟ کیا ان مذکورہ حضرات نے (نعوذ بالله) منافقت کی تعلیم دی۔

(۲) اگر مسلمانوں کا دو حصوں والا کلمہ ایمان کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ منافق دل میں انکار کرتے ہوئے زبان پر کلمہ جاری کر سکتا ہے تو کیا وہی منافق دل میں انکار کرتے ہوئے زبان سے کلمہ میں علی ولی الله وصی رسول الله و خلیفته بلا فصل نہیں کہہ سکتا؟ یوں پھر تمہارے کلمہ کے ساتھ بھی منافقت سے چھٹکارا نہ رہا؟ تو اس سے براءت کا کیا ثبوت ہے؟

اعتراض (۴)

جب سنی بھی حضرت علیؑ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں تو پھر وہ شیعوں کے کلمہ پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟

جواب

اللہ کا ولی ہونا دوسری بات ہے اور ان الفاظ کو کلمہ کا حصہ بنانا دوسری بات ہے، جس طرح حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ولی ہیں، لیکن کلمہ میں اس بات کا ذکر نہیں ہے اسی طرح حضرت عمر فاروقؓ بھی اللہ کے ولی ہیں، لیکن کلمہ میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت عباسؓ، حضرت حمزہؓ، حضرت عقیلؓ اور حضرت جعفر طیارؓ وغیرہم سب حضرات اللہ کے پیارے اور سچے ولی ہیں، لیکن کلمہ میں کسی کی ولایت کا ذکر نہیں ہے۔ پس شیعہ حضرات! حضرت علیؑ بھی اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں، جس میں کوئی شک نہیں لیکن کلمہ میں اس کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ کلمہ صرف وہی پڑھا اور پڑھایا جائے گا جو اللہ کے حکم سے حضور ﷺ نے پڑھایا۔

اعتراض (۵)

سنیوں کا کلمہ قرآن میں ایک جگہ لکھا ہوا موجود نہیں ہے، بلکہ لا اله الا الله سورہ محمد میں ہے اور محمد رسول الله سورہ فتح میں ہے؟

جواب

اہل تشیع خود بھی اپنے کلمہ میں دونوں حصے پڑھتے ہیں پھر اس پر اعتراض کیوں؟ یہ تو اپنے پر اعتراض ہوا۔

(۲) ہم مسلمانوں کے کلمہ کے پہلے حصے میں خدا کی توحید اور دوسرے حصے میں حضور ﷺ کی رسالت کا ذکر ہے اور دونوں حصے جدا جدا طور پر ترتیب کے ساتھ قرآن میں موجود ہیں۔ شیعہ حضرات بھی اپنے کلمہ کے باقی ماندہ حصہ قرآن پاک میں جدا جدا مقامات پر ہی دکھلادیں؟۔

آیت: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا.....الخ﴾

یعنی تمہارے ولی صرف اللہ اور اس کے رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اخون۔
 اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ بھی ہمارے ولی (حاکم) ہیں اور حضور ﷺ بھی
 ہمارے ولی (حاکم) ہیں اور علیؑ بھی ولی ہیں، لہذا ہم قرآن کے فرمان کے مطابق کلمہ
 میں اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں اور علیؑ ولی اللہ پڑھتے ہیں۔
 (رسالہ اثبات علیؑ ولی اللہ فی کلمہ طیبہ جس: ۱۸)

جواب

(۱) اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، تمہارے ولی صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں۔ غور سے ملاحظہ فرمائیں کہ اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے بعد جن مومنوں کو ہمارا ولی قرار دیا گیا ہے، ان کے لئے چھ دفعہ جمع کے الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں ”الذین، امنوا، الذین، یقیمون، یؤتون، هم، راکعون“۔ یقینی طور پر معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہمارے ولی بہت سے ہیں ایک ہی نہیں، پھر ان میں صرف ایک حضرت علیؓ کو مراد لینا کہاں کا النصف ہوگا؟

(۲) اور اس آیت میں ولی اللہ کا لفظ بھی نہیں ہے بلکہ ولیم ہے یعنی تمہارے ولی، نہ کہ اللہ کے ولی، پھر شیعہ ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں کہ اس آیت سے ولی اللہ ثابت ہو رہا ہے۔

(۳) اس آیت میں ولی کا معنی شیعوں نے حاکم کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں: ترجمہ مقبول وغیرہ۔ یوں پھر ”علیٰ ولی اللہ“ کا معنی ہوگا ”علیٰ اللہ تعالیٰ کے حاکم ہیں“، (نعمہ باللہ من شر ذالک).


(۲) اس آیت میں حضرت علیؑ کا اسمِ گرامی موجود ہے اور نہ ہی ولی اللہ کا لفظ ہے۔ اس لئے کلمہ میں علی و ولی اللہ کے لفظ کے لئے اس کو دلیل بنانا کھلی جہالت اور دجل و فریب ہو گا۔

اعتراض (۷)

سے چھ کلمے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ کہاں سے ثابت ہیں؟۔

جواب

عربی میں بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، مثال: لا اله الا الله محمد رسول الله، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر اور بسم الله وغیرہ یہ سب کلمے ہیں۔ سب کیا شیعہ حضرات بھی ایسے بہت سے کلمے پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں زیر بحث وہ کلمہ ہے جو حضور ﷺ نے کسی کو مسلمان کرتے وقت پڑھوا�ا اور وہ کلمہ وہی ہے جس میں صرف توحید اور رسالت کا اقرار ہے اور کسی چیز کا ذکر نہیں اور یہ کلمہ اول کلمہ ہے اور اسلام کا مدار اسی پر ہے اور دوسرے کلموں کی ایسی اہمیت نہیں ہے۔ یہی کلمہ اسلام اور کفر کے درمیان امتیاز کرنے والا ہے۔ لہذا یہ متعین الفاظ کے ساتھ ثابت ہے جس میں کسی کی بیشی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔



چو تھا باب

شیعوں کا اپنے کلمہ کے اثبات کے

لئے شیعہ کتب سے استدلال اور ان کا رد

روایت نمبر (۱) قرآن مجید کی آیت ﴿إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلْمُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يُرْفَعُ﴾۔ (سورہ فاطر، پ ۲۲) کی تفسیر میں حضرت جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ مومن کا کلمہ ”لا اله الا الله محمد رسول الله“ ملی ولی اللہ و خلیفۃ رسول اللہ ہے۔ (تفسیر قمی، تفسیر برہان)

(۱) الجواب:- یہ کلمہ نبی اکرم ﷺ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بنده پہلے ثابت کر آیا ہے کہ حضور ﷺ نے اپنی زندگی مبارک میں کبھی یہ کلمہ پڑھانہ پڑھایا، بلکہ خود حضرت جعفر صادقؑ کا فرمان ہے:

لَا تَقْبِلُوا عَلَيْنَا حَدِيثَ الْأَمَّا وَأَفْقَ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ.

(رجال کشی ص: ۲۲۳)

ہماری صرف وہ حدیث قبول کرو جو قرآن اور سنت کے موافق ہو۔

(۲) الجواب:- اس میں شیعۃ کے کلمہ کے دو حصے وصی رسول اللہ اور خلیفۃ بلا فصل بھی نہیں ہیں۔

(۳) الجواب:- یہ روایت تفسیر قمی اور برہان دونوں میں بغیر سند کے مذکور ہے جس سے اس کے ضعیف ہونے کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ جبکہ عقائد اور کلمہ کا تعلق دلائل قطعیہ سے ہوتا ہے اور یہ روایت ضعیف تو کیا سرے سے سند سے ہی خالی ہے، جس کو موضوع یعنی من گھڑت کہا جاتا ہے۔

روایت نمبر ۲: حضرت امام علیؑ نے فرمایا کہ مومن کا کلمہ طیبہ ”لا اله الا الله“

محمد رسول اللہ علی ولی اللہ" ہے۔ (تفییر برہان)

الجواب:- یہ روایت بھی البرہان فی تفسیر القرآن : تالیف سید ہاشم بحرانی (م: ۱۱۰۹ھ) میں بلا سند درج ہے اور ایسی بے سند اور جھوٹی روایت کو کلمہ جیسے بنیادی عقیدے میں کیا داخل؟ اور کیا اس کا وزن و اعتبار؟ نیز اس میں "وصی رسول اللہ اور خبفۃ بلا فصل" کے الفاظ بھی موجود نہیں ہیں اور نہ ہی یہ حضور ﷺ سے منقول ہے۔

روایت نمبر ۳:- حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا ہے: جب اللہ تعالیٰ نے آنکھوں اور زمین کو پیدا فرمایا تو منادی دینے والے فرشتے کو حکم فرمایا: تین دفعہ میں نداء لگا، "اشهد ان لا اله الا الله" پھر تین دفعہ یہ نداء لگا و "اشهد ان محمد رسول اللہ" پھر تین دفعہ یہ نداء لگا و "اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ".
(اصول کافی کتاب الحجۃ)

الجواب:- کلمہ کے اثبات کے لئے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے اور اس روایت میں ایک راوی سہل بن زیاد خود شیعوں کے ہاں ضعیف ہے، دیکھئے انہی کی کتاب میں مذکور ہے: سهل بن زیاد کان ضعیفا فی الحديث.

(فهرست اسماء مصنفو الشیعۃ المعروف رجال النجاشی ص ۱۳۲ قم ایران)
سہل بن زیاد حدیث میں ضعیف تھا۔

دوسراراوی سنان بن طریف ہے جو مجہول الحال ہے (جس کے متعلق کوئی علم ہی نہیں کہ کون ہے؟ آیا اس کا کوئی وجود بھی ہے یا اپنی طرف سے نام بڑھایا ہوا ہے۔)
(دیکھئے تنقیح المقال فی علم الرجال ج ۲ ص ۷۰، نجف عراق)۔

روایت نمبر ۴:- حضرت جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ فطرت سے مراد توحید کی گواہی اور محمد رسول اللہ اور علی امیر المؤمنین کی گواہی ہے۔ (برہان)

الجواب:- البرہان فی تفسیر القرآن میں یہ روایت سند سے لکھی ہوئی ہے لیکن اس روایت کی سند میں راوی "عبد الرحمن بن کثیر" سخت ضعیف ہے نیز وہ من گھڑت حدیثیں بھی بناتا ہے۔ اس کے متعلق خود شیعوں کے بزرگ احمد بن علی، بن عباس نجاشی (م: ۵۲۰ھ) لکھتے ہیں:

عبدالرحمن بن کثیر الہاشمی کان ضعیفا غمز اصحابنا علیہ و قالوا کان یضع الحدیث۔ (رجال النجاشی ص ۲۳۱ مطبوعہ قم ایران) عبد الرحمن بن کثیر ہاشمی ضعیف تھا اور ہمارے اصحاب نے ان پر جرح کی ہے اور کہا ہے کہ یہ موضوع حدیثیں بناتا تھا۔

(۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ اس روایت میں علی امیر المؤمنین لکھا ہے۔ علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ اور خلیفة بلا فصل نہیں ہے جملے شیعوں کے کلمہ کے حصے ہیں۔

(۳) تیسرا جواب یہ ہے کہ جوبات فطرت کی ہو، ضروری نہیں کہ اس کو کلمہ میں ذکر کیا جائے۔ فطرت کے امور تو اور بھی بہت سے ہیں پھر تو سب کا کلمہ میں ذکر کیا جانا ضروری ہے۔

روایت نمر ۵: حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا فرمان ﴿فِطْرَةُ اللَّهِ الْأَنْجَنُ﴾ یعنی وہ فطرت جس پر اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے اس سے مراد "لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین ولی اللہ" ہے۔

(تفیریقی)

اجواب:- یہ روایت مجہول اور ضعیف ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی یثم بن عبد اللہ الرمانی ہے، اس کے متعلق شیخ عبد اللہ، مقانی (م: ۱۳۵۱ھ) لکھتا ہے۔ ان حالہ مجہول۔ یعنی اس کی شخصیت ہی مجہول ہے۔

(تنقیح المقال فی علم الرجال ج ۳ ص ۳۰۶)

دوسراراوی حسین بن علی بن زکریا ہے، جس کے متعلق ذیل کے یہ الفاظ منقول ہیں: انه ضعیف جدا کذاب۔ یعنی حسین بن علی زکریا انتہائی ضعیف اور کذاب آدمی ہے۔

(تنقیح ج ۳ ص ۳۲)

یاد رکھیں! کہ اس روایت میں بھی وصی رسول اللہ اور خلیفته بلا فصل کے الفاظ نہیں ہیں۔

روایت نمبر ۶: ایک شخص امام علیؑ کی خدمت میں آیا اور آپ سے کچھ سوال

دریافت کئے پھر اس شخص نے کہا: اشہد ان لا اله الا الله و اشہد ان محمدًا رسول الله و ان علیاً و صلی رضی اللہ علیہ و سلی علیہ الرسول اللہ۔ (احصول کافی کتاب التوحید)

الجواب: - اس روایت کے دو جواب ہیں ایک تو اس کی سند میں احمد بن محمد بن خالد راوی ہے، جس کے اساتذہ حدیث ضعیف ہیں۔

احمد بن محمد بن خالد یروی عن الضعفاء (رجال نجاشی) یعنی احمد بن محمد بن خالد ضعیف لوگوں سے روایت کرتا ہے (لہذا ان کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں)۔

دوسرے جواب یہ ہے اس روایت میں علی ولی اللہ اور خلیفۃ بلا فصل کے الفاظ نہیں ہیں۔
روایت نمبر ۷:- قاسم بن معاویہ سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی لا اله الا الله محمد رسول الله کہے تو علی امیر المؤمنین بھی ضرور کہے۔ (احتیاج طبری ص ۲۳۱)

(۱) **الجواب:** - قاسم بن معاویہ اس کی سند میں مجہول راوی ہے، خود شیعوں کی اسماء الرجال کی کتابوں میں اس کا نام و نشان تک نہیں۔ (حاشیہ احتیاج طبری)

(۲) **الجواب:** اس میں شیعوں کے ایجاد کردہ کلمہ کے تین حصے بھی نہیں ہیں پھر اس سے شیعوں کا کلمہ کیسے ثابت ہوا؟

روایت نمبر ۸:- حضرت امام جعفرؑ نے فرمایا کہ جب اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد دو فرشتے پیدا فرمائے اور ان فرشتوں کو حکم فرمایا کہ گواہی دو ”اشہدان لا اله الا الله و ان محمدًا رسول الله و ان علیاً امیر المؤمنین“

(حیات القلوب)

الجواب: - اس روایت میں بھی شیعوں کے کلمہ کے تین اضافی حصے ثابت نہیں ہوئے پھر اس پر دلیل تام کیسے ہو سکتی ہے؟۔

روایت نمبر ۹: لازم کرنے کے ایک شیعہ عبد الوہاب نے کتاب حیات القلوب ج ۲ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت جابر النصاریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے معراج میں آسمان کے دروازہ پر لکھا دیکھا لا اله الا الله محمد

رسول اللہ علی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ (رسالہ اثباتات علی ولی اللہ ص ۳۰)

الجواب:- اس شیعہ نے روایت پیش کرنے میں جو ہی خباثت سے کام لیا ہے کیونکہ روایت میں علی امیر المؤمنین ولی اللہ کے الفاظ سرے ہے ہی نہیں ہیں۔ دیکھئے حیات القلوب فارسی ج ۲ ص ۲۸۲۔

نیز شیعوں کے کلمہ کے تین اضافی حصے بھی ثابت نہیں ہیں، جو ان کے نزدیک ایمان کے اجزاء ہیں۔

روایت نمبر ۱۰:- حضور ﷺ نے اپنے اصحاب سے حضرت علیؓ کی ولایت کا اقرار لیا۔ شیعہ اور اہل سنت کی کتابوں میں اس قسم کا واضح ثبوت موجود ہے کہ کلمہ ولایت علی علیہ السلام پر اصحابؓ سے بیعت لی گئی۔

(رسالہ اثباتات علی ولی اللہ فی کلمۃ طیبۃ ص ۳۳)

الجواب:- لعنة الله علی الکاذبین، یہ بات حضور ﷺ اور آپ کے اصحاب پر کھلماں کھلا جھوٹ ہے۔ پوری دنیا کے شیعہ حضرات مل کر بھی قیامت تک صحیح سند کے ساتھ ایسی کوئی روایت ثابت نہیں کر سکتے، جس میں حضور ﷺ نے اپنے اصحاب سے بیعت لیتے وقت شیعوں کے اضافہ کردہ من گھڑت کلمہ کا اقرار لیا ہو۔ خود عبدالوہاب شیعہ نے اپنے خیال میں شیعہ کلمہ کے اثبات کے لئے پچیس دلائل قائم کئے ہیں اور اس میں ایک بھی ایسی کوئی روایت پیش کی ہے اور نہ پیش کر سکتا ہے۔ عبدالوہاب! جیسے حضرات کیلئے ان کے اپنے امام کا فیصلہ ملا جحظہ ہو!

شیعوں کے امام خمینی کا فتویٰ

در زمان پیغمبر ﷺ ہر کس کہ می خواست کہ بہ برادری و عضوت جامعہ اسلامی نائل شود، باینہ و شہادت با پیغمبر (ص) بیعت می کر دی۔

(رسالہ نوین ج ۱ ص ۱۲۶ تالیف خمینی، طبع ایران سال سنہ ۱۳۶۲ھ)
پیغمبر ﷺ کے زمانے میں جو شخص اسلامی برادری اور جماعت میں شامل ہوتا

چاہتا تو وہ دو شہادتوں (یعنی توحید و رسالت) کے ساتھ حضور ﷺ کی بیعت کرتا تھا۔
یہاں خمینی صاحب نے خود اپنے شیعہ مذہب کی مخالفت کی ہے۔ شیعوں
کو مخالفت اور ضد چھوڑ کر اپنے امام کا فیصلہ مان لینا چاہئے۔
ایران کی دوسری کتاب میں ہے:

حکیم بن حزام و بدیل بن ورقا نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی زبان
پر کلمہ شہادتیں جاری کیا اور آپ کے دست اقدس پر بیعت کی۔

(سوانح عمری ختمی مرتب علیہ السلام حصہ دوم ص ۳۲۳ دارالبلاغ ایران)
قارئین کرام! دیکھئے کہ ادھر کلمہ شہادتیں کے ساتھ علی ولی اللہ وصی
رسول اللہ و خلیفته بلا فصل کا نام نشان تک نہیں ہے۔ شیعہ حضرات سے
سوال ہے کہ جو رحمۃ للعالمین حضور انور ﷺ کے سامنے بیعت کرتے وقت شہادتیں
یعنی ”لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ“ کا اقرار کرے، کیا وہ مسلمان ہو گا یا
نہیں؟ جبکہ اس میں ولایت علیؑ، خلافت علیؑ اور امامت علیؑ کا کوئی اقرار نہیں۔ اور یاد
رہے کہ تمام صحابہ کرام اسی طرح بیعت کر کے مسلمان ہوتے تھے، جن میں خود حضرت
علیؑ بھی شامل ہیں۔



پانچواں باب

وہ کتابیں جن کو شیعوں نے اہل سنت کی طرف
منسوب کیا ہے، جبکہ ان کے مصنف غالی شیعہ ہیں

یہ بات ذہن نشیں ہونا چاہئے کہ بہت سی کتب ایسی ہیں جن کو گمراہ لوگوں نے
اہل سنت بزرگوں کی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ وہ کتابیں ان سُنّتی بزرگوں کی
تصانیف نہیں ہیں۔ مثلاً شیعوں نے ”سرشال عالمین“، کتاب کو امام محمد غزالی (۵۰۵ھ)
کی طرف منسوب کیا ہے، جبکہ یہ کتاب آپؐ کی تصنیف کردہ نہیں ہے۔ (الذریعہ الی
تصانیف الشیعہ ج: ۱، ص: ۲)

ایسی کئی کتابیں اور ہیں جن کے مصنف غالی شیعہ ہیں، لیکن انہوں نے تقیہ کے
طور پر کتاب لکھی۔ یوں ایک طرف اہل سنت کو دھوکہ دیا اور دوسری طرف اپنے شیعہ
مذہب کے زہری عقائد کا پر چار کیا۔ ایسی کتب ایران، عراق اور بیروت وغیرہ میں
شائع ہوتی رہتی ہیں۔ ایسی کتابوں میں مصنف کے نام کے ساتھ شافعی، مالکی اور حنبلی
وغیرہ لکھ کر دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں! یہ اہل سنت کی معتبر کتاب ہے۔ یہ اس لئے کیا
جاتا ہے تاکہ ناواقف سنی مسلمان ان کو اپنی کتب سمجھ کر انکا مطالعہ کریں اور شیعہ کی
طرف مائل ہوں۔ اس کا اعتراض قاضی نوراللہ شوستری (م: ۱۰۱۹ھ) نے اپنی کتاب
 مجلس المؤمنین ج: ۱، ص: ۳ مطبوعہ ایران میں کیا ہے کہ وقتاً فو قتأشیعہ علماء اپنے کوشافعی یا
حنفی وغیرہ لکھتے ہیں اور اس طرح اپنے مذہب کی تبلیغ و ترویج کرتے ہیں۔ نیز شیعوں کا
رئیس الحمد شین عباس قمی (م: ۱۳۵۹ھ) قاضی نوراللہ شوستری کے متعلق لکھتا ہے کہ:

وہ اکبر بادشاہ کے عہد میں قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) تھا۔ اپنے کوشافعی، حنبلی،
شافعی اور مالکی مسلم کا پڑا عالم ظاہر کرتا تھا، لیکن فتویٰ شیعہ مذہب کے مطابق

دیتا تھا۔ لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا۔ جس کی وجہ سے پھر شوستری حنفی مذهب کے مطابق فتوی دینے لگا اور فقہ حنفی میں کچھ کتابیں بھی لکھیں۔

کان یخفی مذهبہ و یتلقی عن المخالفین۔

یہ اپنے مذهب کو چھپا تا تھا اور مخالفین (سنیوں سے منافقت کے ساتھ) تلقیہ لکرتا تھا۔ جب اکبر بادشاہ نے وفات پائی اور اس کا لڑکا جہانگیر تخت نشیں ہوا تو قاضی نے شیعہ مذهب کی تائید میں کتاب مجلس المؤمنین لکھی اور شیعہ مسلم کے مطالب دوبارہ فتوی دینا شروع کیا۔ اس وقت کے سُنّتی علماء نے جہانگیر بادشاہ کو خبر دی کہ قاضی نوراللہ شوستری شیعہ ہے! جہانگیر نے سن کر تعجب سے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر علماء اہل سنت نے شوستری کی کتاب ”مجلس المؤمنین“ پیش کی۔ جہانگیر بادشاہ نے کتاب دیکھ کر محسوس کر لیا کہ یہ واقعی شیعہ ہے، پھر حکم جاری کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔

(اکنی والا لقب ج ۳ ص ۵۶، ۵۷)

(۱) تلقیہ کا مطلب ہے کہ اپنے قول یا عمل سے اپنے عقیدے یا مذهب کی مخالفت کرنا۔ یعنی دل میں ایک بات اور زبان پر دوسری بات ظاہر کرنا، یہ تلقیہ ہے۔ مثلاً زبان سے کہہ کر میں سنی ہوں اور عقیدے و مذهب کے لحاظ سے وہ شیعہ ہو یا زبان سے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی عزت کرے اور دل سے اس کا انکار کرے۔ یہ سراسر دھوکہ، جھوٹ اور منافقت والی چال ہے، جبکہ شیعوں کے نزدیک یہ تلقیہ دین کا جزو اور ضروری چیز ہے۔ اور جو تلقیہ نہ کرے وہ شیعہ کہلانے کا مستحق بھی نہیں، یعنی شیعیت کو تلقیہ کے ساتھی میں زندگی بر کرنا ضروری ہے۔ شیعوں کا رئیس الحمد شیخ صدوق قمی لکھتا ہے:

مخالفین (سنیوں) سے میں جوں رکھو، لیکن باطن میں ان کی مخالفت کرو اور یہ معاملہ دل ہی میں رہے۔ (اعتقاد یہ شیخ صدوق قمی ص ۲۰۳ مکتبہ امامیہ لاہور)۔

قارئین کرام! آپ خود انصاف کی نظر سے فیصلہ فرمائیں کہ کیا ایسا شخص اور اس طرح جھوٹ کے ساتھ میں زندگی بر کرنے والا شخص مؤمن ہو سکتا ہے؟ شیعوں کے امام خمینی کا فتوی ہے کہ جو شخص ظاہر میں ایک چیز ہو اور باطن میں کچھ اور ہو (یعنی منافق) وہ کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہے (کلام امام خمینی حصہ اول ص ۹۷ قم، ایران)۔ منافق اس کو کہتے ہیں جس کے دل اور زبان میں موافقت نہ ہو، زبان سے ایک بات کرے اور عمل سے کچھ اور ظاہر کرے (کلام خمینی ص ۸۰)

یاد رکھنا چاہئے کہ کسی کتاب کے مصنف کے مذہب کو جانچنے کے لئے صرف دو طریقے ہیں۔

(۱) اس کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اس سے معلوم ہوگا کہ یہ کس مذہب کی پر چار اور تبلیغ کر رہا ہے۔

(۲) اگر اس سے معلوم نہ ہو تو اسماء الرجال کی کتابوں سے معلوم کیا جائے کہ انہوں نے اسکے متعلق کیا کہا ہے؟۔

مثال کے طور پر ہم چند نام نہاد شیعہ مصنفین کا ذکر کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوگا کہ وہ سادہ سی عوام کو مگراہ کرنے کیلئے کس طرح سنتیت کا البادہ اوڑھتے ہیں، جبکہ وہ اپنی تحریرات کے آئینہ اور اسماء الرجال میں غالی شیعہ ہیں۔

(۱) ابراہیم بن محمد جمیعہ الجوینی (م ۲۲۷ھ) مصنف "فرائد اسمطین" اپنی تحریرات کے آئینے میں

کتاب فرائد اسمطین کی دو جلدیں ہیں جو بندہ (عبد الرحیم بھٹو صاحب) کی نظر سے گذری ہیں۔ مطالعہ کے بعد معلوم ہوا کہ مصنف بلاشبہ غالی شیعہ ہے، اس نے تقیہ کا البادہ اوڑھ کر شیعہ عقائد کی زبردست تبلیغ اور ترویج کی ہے۔ اس کے عقائد کا مختصر خاکہ ذیل میں پیش خدمت ہے۔

(۱) حضرت علیؑ انسانوں میں سب سے افضل ہیں اور جس نے ایسا نہ کہا وہ کافر (فرائد اسمطین ج ۱۵۲ بیروت)

(۲) تمام بارہ امام معصوم ہیں۔ (ج ۲ ص ۳۱۲ بیروت لبنان)

(۳) هؤلاء أئمۃ من عند اللہ عز و جل (فرائد اسمطین ج ۲ ص ۱۵۹) یہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے مقرر کردہ امام ہیں۔

(۴) اللہ نے ان بارہ پر بارہ صحائف (آسمانی کتابیں) نازل کی ہیں۔ ہر ایک صحife میں ایک امام کی صفات لکھی ہیں۔ (ج ۲ ص ۱۵۹)

(۵) علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا:

لَا يَمْنَانِ لَمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ فَمَنْ تَرَكَ التَّقِيَّةَ قَبْلَ خَرْجِ قَائِمَنَا
فَلَيْسَ مَنَا .
(فراند النَّمْطَنِ ج ٢ ص ٣٣)

جس کا تقیہ نہیں اس کا ایمان نہیں لہذا جس نے امام مہدی کے نکلنے سے پہلے تقیہ چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔

(۶) آیت تطہیر (انما یرید اللہ الخ) سے حضور ﷺ کی ازواج مطہرات خارج ہیں۔ (ج ۲ ص ۳۰۶)

(۷) صاحب فرائد اسمطین، مشہور اور غالی (کثر) اہل تشیع مصنفین کو دعاوں سے یاد کرتا ہے۔ کتاب تہذیب الاحکام اور الاستبصار کے مصنف شیخ طوسی کے نام کے بعد لکھتا ہے رحمہ اللہ (اللہ اس پر حم کرے) اور اسی طرح من لا یحضره الفقیہ کے مصنف شیخ صدوق قمی کے نام پر لکھتا ہے (رضی اللہ عنہ)۔

قارئیں کرام! مندرجہ بالا عقائد شیعوں کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب لسمطین کے مصنف ابراہیم بن محمد جو نبی اپنے عقائد کے آئینے میں ایک کثر اور تعصب پرست شیعہ ہے، لہذا اس کو سنی کہنا جھالت ہے۔

فرانڈ اسمطین کامصنف کتب رجال میں؟

شیعوں کے رئیس الحمد شیخ عباس قمی سنہ ۱۳۵۹ھ ابراہیم بن محمد جمویہ کے تذکرے میں لکھتے ہیں: اس کے اکابر ظاہر میں سنی تھے۔

شیعوں کے آقا بزرگ طہریؑ نے الذریعہ الی تصانیف الشیعہ ج ۱۶ صفحہ ۱۳۵ میں اس کوشیعوں کی فہرست میں داخل کیا ہے۔

علامہ خیر الدین الزركلی ابراہیم بن محمد الجوینی کی نسبت لکھتا ہے:

و جعله الأمين العاملی من اعيان الشیعہ (الاعلام ج ۲۳ ص ۲۳ بیروت)

اور امین عاملی (شیعہ) نے اس کو بڑے شیعوں میں شمار کیا ہے۔

فرائد اسمطین میں مذکور "جنتی دروازہ پر تحریر"

روایت کی تردید

یہ ایک طویل روایت ہے کہ جنت کے دروازہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہے۔

(فرائد اسمطین ج ۱ ص ۲۲۹)

اس روایت کی سند میں کئی راوی غالی شیعہ اور کئی مجہول الحال راوی ہیں۔

دیکھئے راویوں کا حال:

(۱) محمد بن عبد العزیز امی شیعہ، تنقیح المقال فی علم الرجال ج ۳ ص ۳۹

(۲) شاذان بن جبریل امی شیعہ۔ الکنی والا لقب ج ۱ ص ۳۲۳ فوائد الرضویہ ص ۲۲۵

(۳) عبدالحمید بن فخار شیعہ، الکنی والا لقب ج ۲ ص ۱۹۶ فوائد الرضویہ، ص ۷۰

(۴) بھول بن اسحاق انباری شیعہ، الکنی والا لقب ج ۲ ص ۱۲۶ عراق۔

(۵) عمرو بن جمیع شیعہ، تنقیح المقال ج ۲ ص ۳۲۶ نجف عراق۔

اس روایت کو شیعوں کے ذاکر زوار بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں کہ سنیوں کی کتابوں سے ہمارا کلمہ ثابت ہو گیا۔ حالاً نکہ یہ کتاب اور اس کی روایت سنیوں پر کوئی جلت نہیں رکھتی۔

مذکورہ روایت اہل شیعہ کے ہاں بھی قابل جلت اور معتبر نہیں

شیعوں کے نزدیک مذکورہ روایت قابل جلت اور معتبر نہیں ہے، کیونکہ بارہ اماموں میں سے کسی سے بھی منقول نہیں ہے۔ شیعوں کا جمۃ الاسلام غلام خسین بخاری لکھتا ہے: سنت سے مراد فرمان رسول، عملِ رسول اور تقریر رسول ہے۔ ان تینوں میں سے جس کے الفاظ مسلمانوں تک پہنچیں گے ان کو حدیث اور روایت کہا جائے گا اور شیعوں کے نزدیک ایسی سنت معتبر ہے، جس کا بیان بارہ اماموں میں سے کسی نے بھی کیا ہو۔

(حقیقت فقه حفیظ ص ۷ لاہور)

(۲) کتاب ینابیع المودة

تالیف: سلیمان بن ابراہیم قدوزی حنفی (م: ۱۲۹۳ھ) پہبھی اپنی تحریرات کے آئینے میں کثر شیعہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے عقائد ملاحظہ کیجئے:

(۱) حضرت علیؑ خیر البشر ہیں جو اس میں شک کرے وہ کافر ہے۔
(ینابیع المودت ص ۲۹۳ مطبوعہ قمیران)

(۲) امامت حضرت حسینؑ کی اولاد میں مقرر ہے۔ (ینابیع ص ۳۰۸)

(۳) بارہ امام معصوم ہیں۔ (ینابیع ص ۳۰۸)

(۴) بارہ خلیفہ بنی ہاشم میں سے ہیں۔ (ینابیع ص ۳۰۹)

یہاں مصنف نے خلفائے ثلاثة کو خلافت سے نکلا ہے کیونکہ وہ بنی ہاشم میں سے نہیں ہیں۔

(۵) قدوزی نے حضرت امیر معاویہؓ پر لعنت کی ہے (معاذ اللہ)۔ ص ۳۵
قارئین کرام! گذشتہ عقائد سنیوں کے نہیں ہیں، بلکہ شیعوں کے بنیادی اور
مخصوص عقائد ہیں۔ اب خود ہی فیصلہ کریں کہ کتاب ینابیع المودة کا مصنف
سلیمان بن ابراہیم قدوزی شیعہ ہے یا نہیں؟ یقیناً شیعہ ہے۔ مزید ملاحظہ فرمائیں!
شیعوں کا بزرگ آقطہرانی لکھتا ہے:

والكتاب يعد من كتب الشيعه. (کتاب ینابیع) کا شمار شیعوں کی
کتابوں میں سے ہوتا ہے۔ (الذریعۃ تصانیف الشیعہ ج ۲۵ ص ۲۹۰)

یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ مذکورہ کتاب کو طہرانی نے الذریعہ میں شیعہ
کتاب میں سے شمار کیا ہے، پھر یہ کتاب سنیوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟

(۳) کتاب مودة القربی

اس کا مصنف سید علی بن شہاب الدین بن محمد ہمدانی ہے (م ۸۶۵ھ)
 ہمدانی کے عقائد بھی تقریباً یا نافع کے مصنف جیسے ہیں۔ شیعہ علماء نے بھی اس کو
 شیعوں میں ثابت کیا ہے۔ مذکورہ آقا بزرگ طہرانی لکھتا ہے:

الرسالة في إثبات تشيع السيد على بن شهاب الدين بن محمد
 الهمданى للقاضى نور الله التسترى ذكرها بعض المؤثقين .

(الذریعه الى تصانیف الشیعه ج ۱ ص ۹ مطبوعہ بیروت)

سید علی بن شہاب الدین کے شیعہ ثابت کرنے کے لئے قاضی نور اللہ شوستری
 نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور کئی توثیق کرنے والوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔
 جب ہمدانی کو شیعوں نے اپنا آدمی کہا تو اس کی کتاب "مودة" سینیوں کی معتبر
 کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ الہذا یہ کتاب اہل سنت پر جھٹ نہیں ہے۔ ایسی کتنی ہی کتابیں
 ہیں، جن کو ذاکرین نے اہل سنت کی طرف منسوب کیا ہے جبکہ ان کے مصنف کثر شیعہ
 ہیں، جنہوں نے تلقیہ کے لباس میں کتاب لکھی اور منافقت کی تبلیغ کی۔ یہاں ان کتابوں
 کا فصیلی ذکر نہیں کیا جا سکتا مگر صرف سنی مسلمانوں کے رو بروائی کتابوں کی فہرست پیش
 کر دیتے ہیں تاکہ اہل سنت ایسی کتابوں سے واقف ہو کر شیعوں کے مکروہ فریب سے
 محفوظ رہیں اور یاد رکھیں کہ جب شیعہ ایسی کتاب کا حوالہ پیش کریں، جو سنی عقیدے کے
 خلاف ہو تو جان لیں کہ یہ کتاب شیعوں کی ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔

حوالہ جات کے لئے آئندہ صفحات پر شیعوں کی کتب بمع اسماء مصنفین کے ذکر
 کی جاتی ہیں اور جن مصنفین کے ساتھ القابات ہیں وہ انہی کے ساتھ شیعوں کے ہاں
 مشہور و معروف ہیں:

(۲) مروج الذہب:

اسکے مصنف علی بن حسین بن علی المسعودی (المتوفی سنہ ۳۲۶ھ) ہیں۔ مصنف شیعہ ہے۔ دیکھئے رجال نجاشی ص ۱۷۸، ایران، تنقیح المقال فی علم الرجال ج ۲ ص ۲۸۲، الکنی والالقب ج ۳ ص ۱۸۵، اعيان الشیعہ ج ۱ ص ۲۰، سیر اعلام النبلاء ج ۱۵ ص ۱۸۵، تحفہ اثنا عشری ص ۹۱، مجمجم المطبوعات العربیہ ج ۲ ص ۲۳۲۔

(۳) ابن ابی الحدید شرح روح البلاغۃ:

تالیف: عبد الحمید بن هبة اللہ المدائی الشہیر بابن ابی الحدید (المتوفی سنہ ۶۵۶ھ) معزّله اور شیعہ تھا۔ الکنی والالقب ج ۱ ص ۱۹۳، کشف الظنون ج ۲ مجمجم المطبوعات العربیہ ج ۲ ص ۲۹۔

(۴) روضۃ الاحباب:

تالیف: جمال الدین بن فضل اللہ الشیرازی (المتوفی سنہ ۱۱۲۵ھ) یہ شیعہ ہے۔ الکنی والالقب ج ۲ ص ۱۵۲، کشف الظنون ج ۲ ص ۱۹۹۱ بیروت، الذریعة الی تصانیف الشیعہ ج ۱ ص ۲۸۵، مجالس المؤمنین ج ۱ ص ۵۲۹۔

(۵) معارج النبوة:

تالیف: معین کاشفی۔ یہ شیعہ ہے، اس نے تقیہ کے طور پر اپنے کو سی نظاہر کیا۔ (الذریعہ ج ۲۱ ص ۱۸۲ بیروت)۔

(۶) تاریخ یعقوبی:

تالیف: احمد بن یعقوب (المتوفی سنہ ۲۸۳ھ) شیعہ ہے، الکنی والالقب ج ۳ ص ۲۹۶، الذریعہ الی تصانیف الشیعہ۔

(۷) تذکرة خواص الامة بذکر خصائص الائمة:

تالیف: یوسف بن قزلنی البغدادی (سبط ابن الجوزی المتوفی سنہ ۵۶۰ھ)، شیعہ ہے۔ الکنی والالقب ج ۲ ص ۳۰۶، میزان الاعتدال ج ۳ ص ۳۳۳، لسان المیزان ج ۲ ص ۳۲۸۔

(۱۰) مقتل ابی مخنف:

تالیف: ابو مخنف لوط بن یحییٰ (المتوفی سنہ ۷۱۵ھ) شیعہ ہے، اکنی والا لقب ج ۱۵۵، تنقیح المال ج ۲ ص ۳۳۲، اعیان الشیعہ ج ۱ ص ۱۵۶، میزان الاعتدال ج ۲ ص ۳۹۲۔

(۱۱) کتاب الفتوح:

تالیف: احمد بن اعثم کوفی (المتوفی سنہ ۳۱۲ھ) شیعہ ہے۔ مجمع الارباء عن ج ۲ ص ۲۳۰، اعیان الشیعہ ج ۱ ص ۱۰۰، اکنی والا لقب ج ۱ ص ۲۱۵۔

(۱۲) روضۃ الصفا:

تالیف: محمد میر خواند بن خواند شاہ (المتوفی سنہ ۹۰۳ھ) شیعہ ہے۔ الذریعہ الی تصانیف الشیعہ ج ۱ ص ۲۹۶ بیروت۔

(۱۳) روضۃ الشہداء:

تالیف: ملا حسین بن علی کاشفی واعظ (المتوفی سنہ ۹۱۰ھ) شیعہ ہے، اکنی والا لقب ج ۳ ص ۱۰۵۔

(۱۴) الاخبار الطوال:

تالیف احمد بن داود ابو حنیفہ وینوری (المتوفی سنہ ۲۹۰ھ) شیعہ ہے، الذریعہ ج ۳۳۸، تنقیح المقال ج ۱ ص ۶۰، فہرست ابن الندیم ص ۸۶۔

(۱۵) مقاتل الطالبین:

علی بن حسین ابو الفرج اصفہانی (المتوفی سنہ ۳۵۶ھ) شیعہ ہے، اکنی والا لقب ج ۱ ص ۱۳۸، اعیان الشیعہ ج ۱ ص ۱۵۳، البدایہ والنهایہ ج ۱ ص ۲۶۳۔

(۱۶) الفصول الہمہمۃ فی معرفۃ الائمۃ:

تالیف: علی بن محمد بن الصباغ المکی المکی (المتوفی سنہ ۸۵۵ھ) شیعہ ہے، اکنی والا لقب ج ۳ ص ۳۳۶، تفسیر روح المعانی ج ۱۲ ص ۷۔

(۱۷) مقتل الحسين:

ابو المؤید الموقف محمد بن احمد الخوارزمی (المتوفی سنہ ۵۵۶ھ) شیعہ ہے،
 (الذریعہ الی تصانیف الشیعہ ج ۲۲ ص ۳۱۶ بیروت)۔

(۱۸) المثلل والخل:

تألیف: محمد بن عبد الکریم شهرستانی، (المتوفی سنہ ۵۵۸ھ) شیعہ ہے، لسان
 المیزان ج ۵ ص ۲۶۳ حرف المیم، مجمع المطبوعات العربیة ج ۲ ص ۱۱۵۳ مطبوعہ
 قم - ایران۔

(۱۹) کفاية الطالب:

تألیف: محمد بن یوسف الکنخی (المتوفی سنہ ۶۵۸ھ) شیعہ ہے، الاعلام ج ۷ ص
 ۱۵۰ بیروت، لبنان۔

آخر دعواانا ان الحمد لله رب العالمين، والصلوة
 والسلام على حبيبه الكريم، ربنا تقبل منا انك انت
 السميع العليم۔

بارگاہ الہی میں التجاء ہے کہ اس کو کتاب اہل ضلالت کیلئے ہدایت
 اور اہل ہدایت کیلئے استحکام کا ذریعہ بنائے۔ (آمین)

تألیف: مولانا عبد الرحیم بھٹو صاحب دامت برکاتہم
 زیر اہتمام: بقیۃ السلف عمدة المناظرین قامع البدعة والرفة استاذنا ومولانا
حضرۃ العلامۃ علی شیر الحیدری
 دام ظہیرہم العالی
 مترجم وناشر: محمد اصغر مغل غفراللہ